

پاکستان میں راجح فوج داری قوانین:

اسلامی قانونی فکر کے چند اہم مباحث

* محمد مشاق احمد

ABSTRACT

The Constitution of Pakistan calls for bringing all laws into conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Qur'ān and Sunnah, but it does not provide a definition of the "injunctions of Islam". The Council of Islamic Ideology, created by the Constitution for the purpose of facilitating the Parliament in this process has also avoided to provide a clear definition of this term. This has led to confusions, ambiguity and the use of mere discretion in judging the Islamicity of laws. The Federal Shariat Court, which has the power to nullify a law found repugnant to the injunctions of Islam, also did not attempt any definition. The problem is further aggravated by the fact that neither the Council nor the Court has laid down a sound legal theory for deriving and interpreting the rules of Islamic law from the Qur'ān and Sunnah. The present paper highlights the importance of having a sound and analytically consistent legal theory for this purpose and argues that in the absence of such a theory the Council and the Court will never be able to perform their constitutional duty of Islamizing the Pakistani legal system. Picking and choosing between the opinions of the jurists of various schools of Islamic law and mixing these subjectively selected opinions with the alien

principles borrowed from the Anglo-Saxon legal tradition without a sound and elaborate legal theory can only result in analytical inconsistencies.

قیام پاکستان کا اولین اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں کے مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کی روشنی میں بس رکھ سکیں۔ چنانچہ پہلی دستور ساز اسمبلی نے جن اہم امور پر بحث کی ان میں ایک یہ بھی تھا کہ پاکستان کو اگر ”اسلامی ریاست“ بنتا ہے تو اس کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیں؟ اسمبلی میں موجود بعض اراکین نے اسلامی ریاست کو ”تھیکاری“ قرار دے کر اس کی سخت مخالفت بھی کی لیکن بالآخر عوایدِ دباؤ کے تحت اسمبلی نے مارچ ۱۹۷۹ء میں مشہور ”قرارداد مقاصد“ منظور کی جس کے تحت قرار دیا گیا کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہو گا جہاں اسلامی شریعت کی روشنی میں جمہوریت، مساوات اور عدل کی اقدار کے مطابق معاشرے کی تشکیل کی جائے گی۔^(۱)

قراردادِ مقاصد کی روشنی میں دستور سازی کا مسئلہ کافی پیچیدگی اختیار کر گیا اور پہلی دستور ساز اسمبلی کافی مدت تک دستور بنانے میں ناکام رہی۔ بالآخر جب اس نے اپنا کام تقریباً مکمل کر لیا تو اس وقت کے گورنر جنرل نے اسمبلی توڑ دی اور ان کے اس اقدام کو عدالتِ عظمی نے، جسے اس وقت ”وقایی عدالت“ کہا جاتا تھا، سند جواز عطا کی۔^(۲) چنانچہ دستور سازی کے کام کے لیے دوسری اسمبلی وجود میں آئی جس نے ۱۹۵۶ء میں دستور کی منظوری دی۔ قراردادِ مقاصد کو اس دستور کے دیباچے کی حیثیت دے دی گئی۔ یہ دستور صرف دو سال نافذ رہا اور ۱۹۵۸ء میں ملک میں مارشل لا کا نفاذ کیا گیا۔ دوسراد دستور ۱۹۶۲ء میں نافذ کیا گیا اور قراردادِ مقاصد کو پھر اس کے دیباچے کے طور پر رکھا گیا۔ ۱۹۶۹ء میں ملک پھر مارشل لا کی زد میں آیا اور ۱۹۷۱ء میں ملک دونخت ہو گیا۔ ۱۹۷۳ء میں ملک کو تیسرا دستور مل گیا اور قراردادِ مقاصد کو ایک دفعہ پھر اس کے دیباچے کے طور پر شامل کیا گیا۔ ۱۹۸۵ء میں آٹھویں دستوری ترمیم کے ذریعے دستور میں دفعہ ۲۔ الف کا اضافہ کیا گیا جس کی رو سے قراردادِ مقاصد کو دستور کا باقاعدہ طور پر موثر حصہ بناؤ یا گیا۔

- پہلی دستور ساز اسمبلی کے اختیارات اور طریق کا پر بحث کے لیے دیکھیے:

G. W. Chaudhry, *Constitutional Developmental in Pakistan* (London: Longman, 1969), 19-28

اسلامی ریاست پر دستور ساز اسمبلی نے جو بحث کی اس کے تجزیے کے لیے دیکھیے: نفس مرچ، ص ۳۵-۵۷

- تفصیلی فیصلے کے لیے دیکھیے: مولوی تحریر الدین خان کیس

(PLD 1995 FEDERAL COURT 240)

کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا اور اگر موجودہ راجح الوقت قوانین میں جہاں کہیں اسلام کے منافی امور پائے جاتے ہیں تو ان کو دور کر دیا جائے گا۔^(۳) ۱۹۶۲ء کے دستور میں یہ دفعہ ”پالیسی کے اصول“ نامی باب میں رکھی گئی اور اس باب میں موجود و فعالت کا عدالت کے ذریعے نفاذ ممکن نہیں تھا؛ یعنی اگر حکومت نے پالیسی کے اصولوں میں سے کسی اصول کی خلاف ورزی کی تو اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاسکتا تھا۔ چنانچہ اگر مثال کے طور پر حکومت اسلام کے منافی کوئی قانون بناتی تو اسے دستور سے تصادم کی بنیاد پر عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاسکتا تھا۔

۱۹۵۶ء کے دستور میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ دستور کے نفاذ کے ایک سال کے اندر صدر ایک کمیشن بنائے گا جو قوانین کو اسلامیانے کے سلسلے میں سفارشات تجویز کرے گا۔ یہ کمیشن پانچ سال کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گا جسے چھٹے ماہ کے اندر اسempli میں بحث کے لیے پیش کیا جائے گا۔^(۴) تاہم اس دستور کے مفسوخ ہونے تک اس سلسلے میں کوئی خاص عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ ۱۹۶۲ء کے دستور کے تحت ”اسلامی نظریہ کی مشاورتی کونسل“ (Advisory Council of Islamic Ideology) کی تشکیل کی گئی جسے یہ کام سونپا گیا کہ وہ مجلس قانون ساز کو اس سلسلے میں سفارشات دے کہ موجودہ قوانین کو کس طرح اسلام کے مطابق بنایا جائے۔^(۵) ۱۹۷۳ء کے دستور نے بھی اس ادارے کو برقرار رکھا، البتہ اس کے نام سے ”مشاورتی“ کی صفت حذف کی۔ اس کے باوجود اس کی حیثیت ایک مشاورتی ادارے ہی کی ہے جس کی سفارشات کاماننا پارلیمنٹ پر لازم نہیں ہے لیکن پارلیمنٹ کی دستوری ذمہ داری ہے کہ وہ ان سفارشات کا جائزہ لے۔ اس دستور نے قرار دیا تھا کہ سات سال کے اندر کو نسل تمام قوانین کے متعلق اپنی حصی رپورٹ پارلیمنٹ کو پیش کرے گی اور حصی رپورٹ کی تیاری تک ہر سال عبوری رپورٹ تیار کر کے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرے گی۔ رپورٹ چاہے حصی ہو یا عبوری، ہر دو صورتوں میں پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی وصولی کے بعد چھٹے ماہ کے اندر اس کا جائزہ لے۔ مزید برآں دستور نے قرار دیا ہے کہ حصی رپورٹ کی وصولی کے بعد پارلیمنٹ دو سال کے اندر اس میں مذکورہ قوانین کے متعلق قانون سازی

۳۔ دیکھیے: ۱۹۵۶ء اور ۱۹۶۲ء کے دستیر کی دفعہ ۱۹۸ اور ۱۹۷۳ء کے دستور کی دفعہ ۲۲۷

۴۔ ۱۹۵۶ء کے دستور کی دفعہ ۱۹۸

۵۔ اس کونسل کے دائرہ کا کری تفصیل کے لیے دیکھیے: ۱۹۶۲ء کے دستور کی دفعات ۱۹۹۹ء تا ۲۰۰۷ء

کرے گی۔^(۱) گویا دستور نے قوانین کے اسلامیانے کے عمل کی تحریک کے لیے ۱۹۸۲ء کا ہدف مقرر کیا تھا۔ اس لیے یہ امر نہایت افسوس ناک ہے کہ کوئی سفارشات کو پارلیمنٹ نے کبھی درخواست نہیں سمجھا، نہ کوئی نسل یہی نے اپنی رپورٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے سلسلے میں کسی سرگرمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ مزید برآں، کوئی نسل کی سفارشات، جو سالانہ رپورٹوں کی صورت میں تیار ہوتی ہیں، ”صیغہ راز“ میں رکھی جاتی ہیں، یعنی وہ عوامِ انس کے علم میں نہیں آتیں؛ اس لیے کوئی نسل کے کام سے بہت تھوڑے لوگ واقف ہوتے ہیں۔ ۲۰۰۶ء میں کوئی نسل نے اپنی سابقہ روایات کو توثیق کرنے کے بعد وہ قوانین کے متعلق اپنی رپورٹ کو اپنی ویب سائٹ پر public domain میں رکھتا کہ لوگوں کو یہ ہے آسانی دستیاب ہو سکے۔^(۲)

جزل محمد ضیاء الحق نے قوانین کے عمل میں بنیادی طور پر توجہ، فوج داری قانون کی طرف دی، چنانچہ انہوں نے ایک طرف کوئی نسل کے ذریعے حدود سزاویں کے نفاذ کے لیے مسودہ قانون تیار کروایا اور

۶۔ دیکھیے: ۱۹۷۳ء کے دستور کی دفعہ ۲۳۰ (۲)

۷۔ یہ رپورٹ کوئی نسل کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے: www.cii.gov.pk۔ اس رپورٹ کا پہلا ایڈیشن کوئی نسل نے میں ۲۰۰۶ء میں شائع کیا۔ اس مقالے میں اسی پہلے ایڈیشن کے حوالے دیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ اس حقیقی رپورٹ سے پہلے کوئی نسل نے ایک عبوری رپورٹ جو لائی ۲۰۰۶ء میں تیار کر کے اگست ۲۰۰۶ء میں اپنی ویب سائٹ پر رکھی تھی۔ رقم المعرف نے اس عبوری رپورٹ پر ایک تفصیلی تنقیدی تبصرہ لکھا جو اگست ۲۰۰۶ء میں کتابی عکل میں شائع ہوا۔ محمد مشتاق احمد، حدود قوانین: اسلامی نظریاتی کوئی نسل کی عبوری رپورٹ کا تنقیدی جائزہ، مردان، مرار العلوم، اگست ۲۰۰۶ء کوئی نسل کی حقیقی رپورٹ میں اس تنقیدی تبصرے کا ذکر اس انداز میں کیا گیا ہے:

An extensive analytical study of this report was published by Muhammad Mushtaq Ahmad from Mardan. 134

تاہم رقم المعرف نے کوئی نسل کے طریق کار اور حدود قوانین کے متعلق اس کے موقف پر جو تنقیدی تھی، حقیقی رپورٹ میں اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ عبوری رپورٹ کے جن اقتباسات پر رقم المعرف نے تفصیلی تنقیدی کی تھی وہ تمام عبارات اس حقیقی رپورٹ میں حرفاً حرفاً موجود ہیں۔ کیا حقیقی رپورٹ کے قارئین کو اس سے بے ظاہر یہ تاثر نہیں ملتا کہ اس تنقیدی جائزے میں کوئی نسل کی آرائی تائید کی گئی تھی؟ کیا تحقیق کے مسلم اصولوں کے مطابق کوئی نسل کی اخلاقی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ اس کی آرائی کی جانے والی تنقید کا وہ، مختصر ہی سکی، جواب دینے کی زحمت کرتی؟ نیز کوئی نسل نے عبوری رپورٹ کی طرح اس حقیقی رپورٹ میں بھی مختلف دانشوروں اور قانونی ماہرین کی آراء، بلکہ ایک بھی چیز پر ہونے والے مباحثے کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ اگر کوئی نسل نے اس تنقیدی جائزے کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تو کیا intellectual integrity کا کم سے کم تقاضا یہ نہیں تھا کہ اسی طرح اس تنقیدی جائزے کا خلاصہ بھی اس حقیقی رپورٹ میں پیش کیا جاتا؟

دوسری طرف تمام عدالت ہے عالیہ میں "شریعت بخش" بنائے، بعد میں ان شریعت بخوبی کو توڑ کر ایک "وفاقی شرعی عدالت" کی اور اس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت کے لیے عدالتِ عظمی میں "شریعت پیلیٹ بخش" بنایا۔ وفاقی شرعی عدالت کو یہ اختیار سونپا گیا کہ جو قوانین اسلام سے متصادم ہیں ان کو وہ تصادم کی حد تک کا عدم قرار دے۔^(۸) دوسرا کام اس عدالت کا یہ ہے کہ حدود کے مقدمات میں یہ اپیلیٹ کورٹ کی حیثیت

-۸- وفاقی شرعی عدالت کے اختیارِ سماعت کی تفصیل کے لیے دیکھیے: دستور کی دفعہ ۲۰۳ (بی، سی)۔ اس دفعہ کے تحت چار قسم کے قوانین و فاقی شرعی عدالت کے دائرہِ سماعت سے باہر کر دیے گئے ہیں: دستوری قوانین، عدالتی ضوابط سے متعلق قوانین، مسلم شخصی قانون اور دس سال تک کی مدت کے لیے مالیاتی قوانین۔ ان میں آخر الذکر، یعنی مالیاتی قوانین، سے متعلق مدت پہلے دو سال تھی جسے بعد میں پانچ سال اور پھر دس سال کر دیا گیا۔ یہ مدت ۱۹۹۰ء میں ختم ہوئی لیکن پالمٹ میں دو تہائی اکٹھیت نہ ہونے کے باعث اس شش میں حکومت ترمیم نہ کر سکی۔ بہت سی درخواستوں کے ذریعے سودی قوانین کو شریعت سے تصادم کی بنیاد پر چیخ لیا گیا۔ ۱۹۹۱ء میں عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا جس کے تحت ان قوانین کو کا عدم قرار دے کر ان میں ترمیم کے لیے بنیاد پر چیخ لیا گیا۔ حکومت کو حکم دیا گیا اور قرار دیا کہ اگرچہ ماہ کی مدت میں ان قوانین کو شریعت کے مطابق نہ کیا گی تو یہ از خود ختم ہو جائیں گے۔ حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی اور اس کے بعد تقریباً آٹھ سالوں تک اس کی سماعت نہ ہو سکی۔ ۱۹۹۹ء میں جب بالآخر اس کی سماعت شروع ہوئی تو حکومت نے کئی تاریخی حرబے استعمال کرنا شروع کیے، مثلاً نجی کے ایک رکن (جسٹس خلیل الرحمن خاں) کو وفاقی محکمہ بتا کر بخش پہنچ کر مدت کے لیے توڑ دیا گیا۔ حکومت نے عدالت میں درخواست بھی دائر کر دی کہ وہ اپیل واپس لے کر وفاقی شرعی عدالت میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرنا چاہتی ہے، لیکن عدالت نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ دسمبر ۱۹۹۹ء میں سپریم کورٹ نے تاریخ ساز فیصلہ سناتے ہوئے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو برقرار کھا اور حکومت کو ۳۰ جون ۲۰۰۱ء تک کی ڈیلہ لائی دے دی۔ جون ۲۰۰۱ء میں حکومت نے سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ مدت میں مزید اضافہ کیا جائے۔ چنانچہ عدالت نے مدت ۳۰ جون ۲۰۰۲ء تک بڑھا دی۔ جب وہ مدت پوری ہوئے کو آئی تو یونائیٹڈ بینک نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ اس دفعہ عدالت نے صرف اپنے پچھلے فیصلے کو ختم کر دیا، بلکہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو بھی ختم کر کے کیس واپس وفاقی شرعی عدالت میں بھیج دیا کہ وہ از سر نواس کا جائزہ لے اور بعض نئے اخراجے گئے سوالات پر بھی فیصلہ سنا دے۔ تب سے چھ سال ہونے کو آئے مگر آج تک اس کیس کی سماعت شروع نہیں ہوئی۔

شخصی قوانین کا معاملہ اور بھی افسوس ناک ہے۔ بھارت جیسے ملک میں بھی شخصی قوانین کی حد تک اسلامی شریعت کا باظار کھنے کی کوشش کی جاتی ہے مگر پاکستان میں ایوب خان دور کے عالیٰ قوانین کی شریعت سے مطابقت معلوم کرنے کی اجازت عدالت کو نہیں تھی۔ ۱۹۸۰ء میں پشاور ہائی کورٹ کے شریعت بخش نے ان قوانین کا جائزہ لے کر اس کی بہت سی شقتوں کو شریعت سے متصادم قرار دیا۔ (مسماۃ فرشتہ کیس 78 Peshawar 1980 PLD) جب ہائی کورٹ کے شریعت بخش ختم کر کے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی تو اس کے دائرہِ سماعت سے ان قوانین کو باہر کر دیا گیا۔ بعد میں سپریم کورٹ کے چند فیصلوں کو بنیاد بنا کر (جادی)

سے کام کرتی ہے۔ ان دونوں حیثیتوں میں وفاقی شرعی عدالت نے کئی اہم فیصلے سنائے ہیں۔ مثال کے طور پر عدالت

کے ایک فیصلے کے نتیجے میں توہین رسالت کی سزا، موت مقرر کی گئی۔^(۹)

حدود قوانین کے علاوہ فوج داری قانون کے اسلامیانے کے حوالے سے اہم پیش رفت، قصاص و دیت کے قانون کا نفاذ ہے جسے پہلے ایک آرڈی نیٹس کی صورت میں نافذ کیا گیا اور بعد میں ایک آف پارلیمنٹ کے ذریعے اسے تعزیرات پاکستان کے باب ۲۶ میں شامل کیا گیا اور زخموں اور قتل کے متعلق جرائم کے سلسلے میں انگریزی قانون کو منسوخ کر دیا گیا۔

حدود قوانین اور قصاص و دیت کے قانون کی مختلف دفعات پر مختلف حقوق کی جانب سے کافی تنقید ہوئی ہے اور ان کے دفاع میں بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اس مکالے میں اسلامی قانونی فکر کے حوالے سے کئی اہم مباحث سامنے آئے ہیں۔ اس مقالے میں ایسے ہی چند اہم مباحث کا خالص فقہی اور قانونی نقطہ نظر سے تجزیہ کیا گیا

۔۔۔

اس مقصد کے لیے فصل اول میں فوج داری قوانین کے اسلامیانے کے عمل کے متعلق چند اہم اصولی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کو نسل اور وفاقی شرعی عدالت اس امر کا تعین کیسے کرتی ہیں کہ کوئی قانون اسلام سے متصادم ہے یا نہیں ہے؟ ہے الفاظ دیگر کیا ان اداروں نے اپنے ”اصول فقة“ کی تشكیل کی ہے؟ نیز ”اسلام کے احکام“ سے مراد کیا ہے جن سے تصادم یا عدم تصادم کی بنیاد پر کسی قانون کے صحیح یا باطل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے؟

(گذشتہ سے پوست) وفاقی شرعی عدالت نے طے کیا کہ مسلم فیملی لاز آرڈی نیٹس ۱۹۷۱ء کا جائزہ لے سکتی ہے۔ چنانچہ عدالت نے ۱۹۹۳ء میں اس آرڈی نیٹس کے متعلق درخواستوں کی سماعت شروع کی۔ ۱۹۹۷ء میں رقم الحروف بھی عدالت میں پیش ہوا اور آرڈی نیٹس کی وحدہ ۲ کے قرآن و سنت سے متصادم ہونے کے متعلق دلائل دیے، نیز نئی قانون سازی کے لیے تجویز دیں۔ بالآخر دسمبر ۱۹۹۹ء میں عدالت نے اپنا فیصلہ سادیا جس کے تحت اس آرڈی نیٹس کی چند شقیں قرآن و سنت سے متصادم قرار دی گئیں۔ اس فیصلے کے خلاف پریم کورٹ میں اپیل کی گئی جس کی سماعت تا حال شروع نہ ہو سکی۔ باقی رہے دستوری قوانین اور عدالتی طریق کار سے متعلق ضوابط قوانین پر توبات بھی نہیں کی جاسکتی۔ اس سے کچھ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ قوانین کو اسلامیانے کے سلسلے میں ہماری سول اور فوجی حکومتی تکنی ملکیت رہی ہیں!

- دیکھیے: اساعیل قریشی بناہم سرکار (PLD 1991 FSC 10)

اس اصولی بحث کے بعد فصل دوم میں ان مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے جو دو مختلف نظام ہائے قوانین کو یک جا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ اس کوشش میں بالعموم قانون، اندر وونی تصادفات کا شکار ہو جاتا ہے، نیز با اوقات قانون کے اندر خلاپید اہو جاتا ہے جسے عدالت پر کرتی ہے تو اس سے اور پیچیدہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

فصل سوم میں سزاوں سے متعلق اسلامی قانون کے نظام کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے اور ان بعض اہم سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے جو اس نظام کے متعلق کو نسل، عدالت اور دیگر حقوقوں کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں۔ اس فصل کے نتائج میں ایک اہم نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں فوج داری قانون پر کام کرنے والے بیشنتر افراد نے اپنی تحقیقات کا دائرہ حدود، قصاص و دیت اور تعزیر تک محمد و در کھا ہے جب کہ "سیاست" کے نہایت اہم تصور کو عام طور پر نظر انداز کیا گیا ہے، حالانکہ انگریزی قانون کے تصور "جزم" کا اسلامی قانون میں قریب ترین تبادل سیاست کا تصور ہے۔

فصل اول: احکام اسلام کے ساتھ تصادم کا مسئلہ

دستور نے اسلامی نظریاتی کو نسل اور وفاقی شرعی عدالت کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ قوانین کا جائزہ (۱۰) "اسلام کے احکام" (Injunctions of Islam) کے ساتھ تصادم یا عدم تصادم کے پہلو سے لیں۔ اس سلسلے میں اولین بات یہ ہے کہ دستور نے "اسلام کے احکام" کی کوئی تعریف پیش نہیں کی، نہ اعلیٰ عداؤں ہی نے ابھی تک اس اصطلاح کی وضاحت کی ہے۔ کو نسل نے اپنی "سالانہ رپورٹ سال ۱۹۸۶ء" میں سینیٹ کے منظور کردہ "شریعت بل" کے متعلق اپنی سفارشات میں "شریعت" کی یہ تعریف پیش کی ہے:

(۱۱) "شریعت سے مراد قرآن و سنت میں مذکور احکام اسلام ہیں۔"

لیکن اس رپورٹ میں بھی "احکام اسلام" کی تعریف پیش نہیں کی گئی، تاہم تعریف کی توضیح میں بتایا گیا ہے:

"احکام اسلام کی تشریع میں رہنمائی کے لیے درج ذیل مأخذ سے استفادہ کیا جائے گا۔

(۱) سنت خلفاء راشدین (۲) تعاون صحابہ (۳) اجماع امت

۱۰۔ ملاحظہ تجھیے: دستور کی دفعہ ۲۰۳ ذی ذی اور دفعہ ۲۳۰

۱۱۔ اسلامی نظریاتی کو نسل کی سالانہ رپورٹ، ۱۹۸۶ء-۸۷ء، اشاعت دوم اگست ۱۹۹۱ء، ص ۲۶

(۲) فقہاء اسلام کی مسلمہ تشریحات و آراء^(۱۲)

اس ابہام کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عملاً احکام اسلام کو قرآن و حدیث کی "نصوص" کے مترادف فرض کر لیا گیا ہے، چنانچہ کو نسل اور عدالت بسا اوقات کسی معاملے میں یہ کہہ کر کہ کسی خاص نص میں اس کی ممانعت نہیں کی گئی ہے، اسے جائز قرار دیتی ہیں۔ بہ الفاظ دیگر، قوانین کے جواز اور عدم جواز کے لیے "اباحتِ اصلیہ" کے قاعدے کو نہایت توسعی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ "النصار بر نی کیس" میں وفاقی شرعی عدالت نے قرار دیا کہ اباحتِ اصلیہ کے قاعدے کے مطابق خالتوں حدود و قصاص سمیت ہر قسم کے مقدمات میں حجج بن سکتی ہے، کیوں کہ اس کی ممانعت کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی صریح دلیل نہیں

پائی جاتی۔^(۱۳) اس سلسلے میں قابلِ لحاظ بات یہ ہے کہ "اباحتِ اصلیہ" کا قاعدہ اتنی مضبوط بنیادوں پر قائم نہیں ہے کہ اس کے ذریعے شریعت کے احکام کا ذہانچہ تبدیل کیا جائے یا اس کے ذریعے نئی قانون سازی کی جائے؛ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اول: یہ کوئی مسلمہ قاعدہ نہیں ہے۔^(۱۴) دوم: اگر اسے مسلمہ قاعدہ قرار بھی دیا جائے تو اس سے اتنے ڈھیر سارے استثناءات ہیں کہ اسے قاعدة کلیہ قرار ہی نہیں دیا جا سکتا۔^(۱۵) سوم: اگر اسے ایک مسلمہ قاعدہ

۱۲۔ اسلامی نظریاتی کو نسل کی سالانہ رپورٹ، ص ۲۶

۱۳۔ انصار بر نی کیس (PLD 1983 FSC 73)

۱۴۔ امام جلال الدین سیوطی خود مسلک کے لحاظ سے شافعی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ احتجاف کے نزدیک اشیائیں اصل اباحت نہیں، بلکہ تحریم ہے۔ (الأشیاء و النظائر، القاهرۃ، دار إحياء الكتب العربية، ۱۹۵۹، ص ۲۶)، دراصل احتجاف قواعد عامہ پر عمل کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ اس لیے جہاں بہ ظاہر نصوص خاموش ہوں وہاں وہ فوراً اباحت اصلیہ کی طرف پہنچنے کے بجائے شریعت کے قواعد عامہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس بنا پر انہیں اباحت اصلیہ کے قاعدے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تاہم وہ ایک مفروضے کے طور پر جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو اسے آیت کریمہ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (ابقرۃ، آیت ۲۹) [وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔] اسے ماخوذ قرار دیتے ہیں، (شیخ احمد ملا جیون جنوبی، التفسیرات الأحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیة، بہمنی، المطبع الکربلائی، ص ۱۰۱-۱۱)

۱۵۔ مثلاً تمام فقہاء اس پر تقویٰ ہیں کہ عبادات میں اصل تحریم ہے، (سیوطی، الأشیاء و النظائر، ص ۲۶) اس پر بھی اتفاق ہے کہ شرم گاہوں میں اصل تحریم ہے (ایضاً) اسی طرح این قیم اور دیگر فقہاء تصریح کی ہے کہ قتل نفس اور ذبح میں بھی اصل تحریم ہے۔ (اہن قیم، أحكام أهل الذمة، بیروت، دار الكتب العلمیة، ۲۰۰۲، ج ۱، ص ۲۵) نیز انسان کو روز اول ہی (جاری

کلیہ قرار دیا جائے تب بھی سوال یہ ہے کہ کیا قوانین کو اسلامیانے کا مقصد اس قاعدے کے استعمال کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے؟ بعض قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صرف پانچ فیصد قوانین ایسے ہیں جن کو اسلامیانے کی ضرورت ہے، ورنہ باقی قوانین میں کچھ غیر اسلامی نہیں ہے۔ گویا انہوں نے ”عدم تصادم“ (Non-Conformity) کو ”مطابقت“ (Conformity) کے مترادف سمجھ لیا ہے۔ لیکن کیا حقیقت بھی یہی ہے؟^(۱۲)

احکام اسلام کے متعلق ابہام کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بسا اوقات کو نسل اور عدالت، فتحہ کی تصریحات کو نظر انداز کر کے براہ راست قرآن و حدیث سے استدلال کی راہ اختیار کر لیتی ہیں۔ اس براہ راست استدلال میں کئی قباحتیں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس طرح کو نسل اور عدالت دوبارہ پہیہ ایجاد کرنے کے چکر میں پھنس جاتی ہیں، جونہ صرف وقت اور تو انکی کا ضیاع ہے، بلکہ اس کو شش میں قانون اندر ہونی تضادات کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور بسا اوقات اجماع امت کی بھی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر ”بیگم رشیدہ پٹیل کیس“ میں عدالت نے زنا باجر کو حد حرابة کے تحت لانے کا حکم دیا، لیکن اس بات پر بحث ہی نہیں کی کہ اسے حد حرابة قرار دینے کے بعد کیا اس پر حرابة کی سزا دی جائے گی یا اس کی سزا دی رہے گی جو حد زنا آرڈی نہیں میں مقرر کی گئی تھی؟^(۱۳) اسی طرح ”حضور بخش کیس“ میں عدالت نے قرار دیا، کہ رحم حد نہیں بلکہ تعزیر ہے، حالاں کہ اس کے حد ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔^(۱۴) اسی وجہ سے امام غزالی رض نے صراحتاً کہا ہے کہ کسی مسئلے کے شرعی

(گذشتہ سے پیوست) سے وہی الہی کی راہ نمائی حاصل تھی۔ پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام بھی بھی تھے، اس لیے ابتدائی سے چند چیزیں حرام رہی ہیں۔ پس یہ کہنا کہ اصل میں ہر چیز حلال ہے صحیح نہیں ہے۔ (بحر العلوم عبد العلی بن نظام الدین الانصاری،

فواتح الرحموت شرح مسلم الشبوت، تاہر، ۱۳۲۳ھ، ج ۱، ص ۵۰-۵۹)

۱۷- تفصیل کے لیے دیکھیے:

Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994), 293-301; *Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 2000) 239-240, 325-353

۱۸- بیگم رشیدہ پٹیل کیس (PLD 95 FSC 1989)

۱۸- حضور بخش کیس (PLD 1 FSC 1983)۔ خوارج نے اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف کیا تھا، لیکن صحابہ کے اجماع کے بعد خوارج کے اختلاف کی کوئی قانونی اہمیت باقی نہیں رہی۔ اسی طرح چودھویں صدی ہجری کے نصف آخر میں بعض افراد کے اختلاف سے اجماع کی قانونی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

حکم کے استنباط کے لیے مجتہد کو سب سے پہلے اجماع کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کیوں کہ اگر وہ براہ راست قرآن یا حدیث کی طرف رجوع کرے گا تو یہ امکان ہو گا کہ وہ اجماع امت کی خلاف ورزی کرے جو ناجائز ہے۔ بہ الفاظ دیگر انہوں نے ان مسائل کو *reopen* کرنے کی ممانعت کی جن کو امت کے مجتہدین اجماعی رائے سے پہلے ہی طے کرچکے ہوں۔ پس عدالت اور کونسل کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ احکام اسلام کی واضح، جامع اور مانع تعریف پیش کرے۔ کیا ”حکم اسلام“ کی وہی تعریف مناسب رہے گی جو ”حکم شرعی“ کے لیے فقہاء مقرر کی؟^(۱۹)

اگر ایک لمحے کے لیے ”احکام اسلام“ کی تعریف کی تعین کا مسئلہ نظر انداز کیا جائے تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احکام اسلام، جو کچھ بھی وہ ہوں، کے ساتھ تصادم کافیصلہ کو نسل یا عدالت کس نیاد پر کرتی ہے؟ ان اداروں نے قرآن و سنت کے آپس میں تعلق، خبر واحد کی جیت، نسخ قرآن، عام کی تخصیص، مطلق کی تقبیح، محل کی تفسیر اور اس طرح کے دیگر اصولی مباحث میں کیا نظریہ اپنایا ہے؟ یہاں اس بات کی بھی وضاحت ضروری محسوس ہوتی ہے کہ اصول فقہ کے متعلق ایک عام غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ تمام مذاہب فقہ کو اصول کے معاملے میں ”ایک نظریہ“ کا علم بردار سمجھا جاتا ہے۔^(۲۰) عصر حاضر میں مختلف مذاہب سے اخذ ورد کے نتیجے میں جو مضمکہ خیز صور تین پیدا ہوئی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ یہی غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فقہاء اسلام نے اصول کے معاملے میں کم از کم تین نظریے اپنائے ہیں۔^(۲۱) ایک نظریے کے تحت جب ایک اصول مان لیا گیا تو دوسرے اصول بھی اسی نظریے کے مطابق مقرر کیے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مذہب ایک اندر وہی طور پر معمکم قانونی

۱۹۔ فقہاء حکم شرعی کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: ہو خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. (الله تعالیٰ کا وہ خطاب جو مکلفین کے افعال سے بطور اقتضا، وضع، یا تخيیر کے، متعلق ہو)۔ (صدر الشريعة عبد اللہ بن مسعود، التوضیح فی حل غوامض التنقیح، کراچی، ۱۹۷۸ء، ج، ص: ۸۲؛ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے:

محمد بن علی بن محمد الشوکانی، إرشاد الفحول، مکتبۃ المکرمة، مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباز، ۱۹۹۷ء، ج، ۱، ص: ۱۵-۲۵)

۲۰۔ یہ نظریہ بنیادی طور پر مستشرقین نے پیش کیا لیکن اسے مسلمان اہل علم نے بھی بالعموم سمجھا گیا ہے۔ دیکھیے: Joseph Schacht, *Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford, 1964)

۲۱۔ اس موضوع پر ایک جامع تحقیق کے لیے استاد محترم جناب پروفیسر عمران احسن خان یازی کی کتاب

ملاحظہ کریں۔ *Theories of Islamic Law*

نظام کی صورت میں ابھر۔ فروع سے بھی آگے بڑھ کر جب اصول میں بھی "تلقیق" کی راہ اختیار کی جاتی ہے تو تیجہ قانون کے اندر تضادات (Analytical Inconsistency) کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس لیے احکام اسلام کی تعریف متعین کرنے کے بعد کو نسل کے لیے کرنے کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے احکام اسلام کے اخذ، اور پھر ان اخذ شدہ احکام کے ساتھ قوانین کے لصادم یا عدم تصادم کا فیصلہ کرنے کے لیے اصول متعین کر لے۔

حدود قوانین کے متعلق رپورٹ میں کو نسل نے اپنے "اصول فقه" کی کچھ وضاحت اس طرح کی ہے:

Sources mean the Qur'an and Sunnah, which are the sources for finding the laws. The methods of Qiyyas and Ijtihad are employed to find a law in the light of these sources when a law is not given in the Qur'an and Sunnah. The legal position of a law deduced on the basis of Qiyyas and Ijtihad varies, depending on whether they agree or differ on the validity of a deduced law. The weakness and the strength of this validity are categorized accordingly into Fard, Wajib and Sunnah.^(۲۲)

(ماخذ سے مراد قرآن اور سنت ہیں جن سے قوانین اخذ کیے جاتے ہیں۔ جب قانون، قرآن اور سنت میں موجودہ ہو تو ان مأخذ کی روشنی میں کسی قانون کے استباط کے لیے قیاس اور اجتہاد کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قیاس اور اجتہاد کے ذریعے مستنبط کیے گئے کسی قانون کی قوت و ضعف کا انحصار اس امر پر ہوتا ہے کہ کیا اس مستنبط شدہ قانون پر ان کا اتفاق ہے یا اختلاف؟ ضعف اور قوت کے لحاظ سے پھر اسے فرض، واجب اور سنت کے مراتب دیے جاتے ہیں۔) یہ پیراگراف، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چند رچند غلط فہمیوں کا مجموعہ ہے۔

اول: اجتہاد صرف اس صورت ہی میں نہیں کیا جاتا جب قرآن و سنت میں حکم نہ پایا جائے، بلکہ قرآن و سنت کی نصوص کی تعبیر و تشریح اور تفسیر و توضیح، جسے اصطلاحاً "بیان" کہا جاتا ہے، بھی اجتہاد کے مفہوم میں شامل ہے۔^(۲۳)

دوم: جب قرآن و سنت میں حکم نہیں دیا گیا تو پھر اجتہاد اور قیاس کے ذریعے حکم کیے ڈھونڈا جاتا ہے جب کہ آپ نے پہلے ہی یہ تعین کر لیا ہے کہ حکم کے مأخذ صرف قرآن و سنت ہی ہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ

۲۲۔ دیکھیے: حدود قوانین کے متعلق اسلامی نظریات کو نسل کی تحقیقی رپورٹ، ص ۱۳

۲۳۔ دیکھیے: شمس الائمه ابو بکر محمد بن احمد بن ابی سہل سرخی، اصول السرخی المسنی تمہید الفصول في الأصول،

اس صورت میں حکم قرآن و سنت ہی میں ڈھونڈا جائے گا؟ لیکن آپ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اجتہاد اس صورت میں کیا جاتا ہے جب حکم قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، تو کیا اس صورت میں مجتہد اپنی رائے سے حکم کا تعین کرے گا؟ اگر ہاں تو کیا اس طرح وہ خود شارع (Lawmaker) نہیں بن جاتا؟ اس قباحت سے بچنے ہی کے لیے فقہاءِ اسلام نے بطور اصول یہ بات طے کی کہ قیاس کے لیے اصل یا مقیس علیہ (Original Case) کا نصوص میں موجود ہونا ضروری ہے، اسی طرح اجتہاد کے دیگر طرق کے لیے بھی بنیاد کا نصوص میں موجود ہونا انہوں نے ضروری قرار دیا۔^(۲۳)

سوم: قیاس کے ذریعے ماخوذ حکم کی قوت و ضعف کا انحصار قیاس کرنے والے کے اتفاق یا اختلاف پر نہیں، بلکہ ان دو مقدمات (Premises) کی قطعیت یا غلطیت پر ہے جن پر قیاس قائم ہوتا ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ حکم اصل کی علت قلائل و صفح ہے، دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہی علت فرع میں موجود ہے، اگر یہ دونوں مقدمات قطعی ہوں تو قیاس بھی قطعی ہو گا، اور اگر ان میں ایک بھی مقدمہ غلطی ہو تو قیاس بھی غلطی ہو گا۔^(۲۴)

چہارم: حکم تکلیفی کی فرض، واجب یا سنت میں تقسیم کی بنیاد یہ نہیں کہ جس قیاس یا اجتہاد کے ذریعے یہ حکم اخذ کیا گیا وہ قوی ہے یا ضعیف، بلکہ اس تقسیم کی بنیاد کچھ اور ہے، نیز یہ تقسیم صرف قیاسی یا اجتہادی احکام کے لیے نہیں، بلکہ نصوص میں صراحتاً مذکور احکام کے لیے بھی ہے۔ مزید برآں یہ تقسیم حکم تکلیفی کی پوری تصویر نہیں دیتی، کیوں کہ اس میں حرام، مکروہ تحریکی، مکروہ تنزیہی اور مباح کاذکر نہیں ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ حکم شرعی کی ایک اور بھی قسم ہے جو نصوص میں مذکور بھی ہوتی ہے اور اجتہاد اخذ بھی کی جاسکتی ہے اور وہ ہے حکم و ضمی (شرط، سبب، مانع، صحبت، بطلان، فساد، عزیمت اور رخصت)۔^(۲۵) کیا کو نسل بھی جان آئٹھن کی طرح حکم کو Command کا مترادف سمجھتی ہے؟ بلکہ جان آئٹھن تو Negative Commands یعنی نواہی کا بھی ذکر کرتا ہے اور کو نسل صرف Positive Commands یعنی اوامر ہی کو حکم کہہ رہی ہے۔^(۲۶)

۲۲ - شوکانی، مرجع سابق، ج ۲، ص ۲۹۷؛ امام ابو حامد غزالی، المستصنفی من علم الأصول، بیروت، دار إحياء التراث

العربي، ج ۲، ص ۱۳۹

۲۵ - شوکانی، مرجع سابق، ج ۱، ص ۱۵-۲۵

۲۶ - الصفار، ج ۱، ص ۱۱۷-۱۲۳

27 - H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1961), 182

فصل دوم: دو مختلف نظام ہے قوانین کے اصولوں کے درمیان تتفق سے پیدا ہونے والے مسائل

عصر حاضر میں فقہ اسلامی پر کام کرنے والوں نے بالعموم ایک فقہی مسلک کے اتزام کو لازم نہیں سمجھا ہے اور ایک ہی موضوع کے مختلف مسائل پر مختلف مذاہب سے احکام جمع کرنے کا طریقہ اپنایا ہے۔ اس طریقہ کار کو اصطلاحاً ”تفقیق“ کہا جاتا ہے۔^(۲۸) اصول فقہ کے لحاظ سے اس طریقہ کار میں کئی قباحتیں ہیں، مثلاً اس کا ایک نتیجہ یہ ہکتا ہے کہ بسا وقات ایسا مسلک وجود میں آ جاتا ہے جس کا قائل فقہاء میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا اور یوں اجماع امت کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، مثلاً کسی کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول پسند آیا کہ ولی کے بغیر نکاح جائز ہے، پھر اسے امام مالک کا یہ قول اچھا لگا کہ نکاح کے لیے گواہوں کی موجودگی ضروری نہیں اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ نکاح کے لیے نہ ولی کی موجودگی کی ضرورت ہے نہ گواہوں کی موجودگی ہی کی! حالاں کہ ایسا نکاح تمام فقہاء کے نزدیک باطل ہے۔ کچھ اسی قسم کا معاملہ حدود قوانین پر تنقید کرنے والوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، مثلاً بعض لوگوں نے فقہاء کی عمومی رائے کے بر عکس بعض فقہاء مالکیہ کے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ زنا بالجبر حرابہ کے مفہوم میں شامل ہے لیکن اس کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی کی اس رائے کو قبول کیا ہے کہ حرابہ کی انتہائی شکل کی سزا رجم ہے اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ زنا بالجبر کی سزا رجم ہے۔^(۲۹) حالاں کہ تمام فقہاء کے نزدیک رجم زنا کی سزا ہے نہ کہ حرابہ کی، حتیٰ کہ وہ فقہاء مالکیہ بھی اس کے قائل نہیں جو زنا بالجبر کو حرابہ قرار دیتے ہیں۔

ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کے اخذ و رد کے نتیجے میں قانون اندر ورنی طور پر تضادات اور تصادم (Analytical Inconsistency) کا شکار ہو جاتا ہے۔ فقہاء کے مختلف مسائل میں جو فروغات اور جزئیات مستبط کی گئی ہیں، ان کی بیانیہ چند اہم قواعد پر ہوتی ہے۔ ان قواعد کو ہر مکتب فکر نے جانچ کر اور پرکھ کر اپنے نظام کا یا تو حصہ بنایا ہے یا انہیں رد کیا ہے یا ان میں اپنے نظام کی مناسبت سے تبدیلی کی ہے۔ یوں ہر مسلک میں ایک اندر ورنی طور پر مستلزم نظام وجود میں آیا ہے۔ مثلاً قرآن و سنت کی نصوص اور خلفاء راشدین کے فیصلوں کو مد نظر رکھنے

۲۸ - تتفق کے طریقہ کار پر تفصیلی تنقید کے لیے دیکھیے:

Imran Ahsan Khan Nyazee, *The Secrets of Usul al-Fiqh: Module VI: The Rules for Issuring Fatwas*, (Islamabad: Federal Law House 2012), 68-77

۲۹ - ڈاکٹر طفیل باشی، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حدود آڑی نہیں کا ایک جائزہ، پشاور، نیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن،

کے بعد امام ابو حنیفہ[ؓ] نے یہ قاعدہ بنایا کہ دارالاسلام کی عدالتون کا اختیار ساعت صرف ان تنازعات تک محدود ہے جو دارالاسلام کی جغرافیائی حدود کے اندر پیدا ہوئے ہوں۔ گویا انہوں نے عدالتون کے لیے علاقائی دائرہ اختیار (Territorial Jurisdiction) کا اصول مان لیا ہے۔ اس اصول کو مان لینے کے بعد انہوں نے پورے قانونی نظام میں ہر مسئلے پر اس کا اطلاق کیا ہے۔ اس کے بر عکس امام شافعی[ؓ] نے اصول یہ طے کیا کہ اسلامی قانون کی ہر خلاف ورزی پر عدالتیں اختیار ساعت رکھتی ہیں چاہے تنازع، دارالاسلام کی جغرافیائی حدود کے اندر اٹھا ہو یا باہر، گویا انہوں نے عدالتون کے لیے علاقائی دائرہ اختیار کا اصول نہیں مانا۔^(۲۰) اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ نصوص کے ایک ہی مجموعے سے امام ابو حنیفہ[ؓ] اور امام شافعی[ؓ] کیے مختلف اصول اخذ کرتے ہیں؛ مختصر ایہ اشارہ کافی ہو گا کہ قرآن و سنت کے باہمی تعلق، خبر واحد کی قبولیت کی شرائط، قرآن کی تخصیص، تقيید اور نسخ، خلفاء راشدین اور صحابہ کے فیصلوں کی حیثیت، قیاس، احسان اور مصلحت کی جیت اور دائرہ کار اور دیگر کئی اصولی مباحثت میں ان دونوں عظیم مجتهدین نے مختلف موقف اپنایا ہے۔ ان اصولی مباحثت میں اختلاف کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ حنفی مسلک میں علاقائی دائرہ اختیار کے اصول کو مانے بغیر چارہ نہیں اور شافعی مسلک میں اس اصول کے ماننے کا امکان ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص علاقائی دائرہ اختیار اس اصول کو ایک جگہ مانے اور دوسری جگہ نہ مانے تو نتیجہ اندر وطنی تضاد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور اسے نہایت بلکہ الفاظ میں بناء الفاسد علی الفاسد ہی کہا جاسکتا ہے۔^(۲۱)

پس تقلید کا تعصب اور تنگ نظری سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ تقلید ہر قانونی نظام کا لازمی تقاضا ہوتا ہے۔ پاکستان کے قانونی نظام ہی کو دیکھیے، صوبوں میں تمام ماتحت عدالتیں اس صوبے کی عدالت عالیہ کے فیصلوں کی پابند ہوتی ہیں اور عدالت ہائے، عالیہ عدالت عظمی کے فیصلوں کی پابند ہوتی ہیں، نیز ماتحت عدالتون کے فیصلوں کے خلاف جب عدالت عالیہ میں اپیل میں امر واقعہ (Question of Fact) پر بھی بحث کی جاسکتی ہے اور امر قانونی (Question of Law) پر بھی؛ لیکن جب عدالت عالیہ کے فیصلے کے خلاف عدالت عظمی میں اپیل کی جاتی ہے تو وہاں صرف امر قانونی (Question of Law) ہی زیر بحث آسکتا ہے۔ پھر جب

۲۰ - اس موضوع پر تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے:

Muhammad Mushtaq Ahmad, "The Notions of Dar al-Harb and Dar al-Islam in Islamic Jurisprudence with Special Reference to the Hanafi School", *Islamic Studies*, 47: 1 (2008), 5-37.

۲۱ - اس طریق کا درکے نتیجے میں قانون میں پیدا ہونے والے تضادات کا ہم آگے تفصیل سے ذکر کریں گے۔

عدالتِ عظمی نے ایک قانونی اصول طے کر لیا تو تمام عدالتیں اس اصول کو مانتیں گی۔ یہ محض ایک انتظامی امر نہیں بلکہ قانونی نظام کے اندر ہم آہنگی کے لیے یہ ازبیں ضروری ہے۔ اگر عدالت ہائے عالیہ کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ عدالتِ عظمی کے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے کوئی اور قانونی اصول طے کریں، یا ماتحت عدالتیوں کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ دو عدالت ہائے عالیہ کے طے کردہ مختلف قانونی اصولوں میں کسی بھی اصول کو مان سکتی ہیں، تو ملک کے اندر قانونی نظام نامی کوئی شے نہیں پائی جائے گی۔ یہی معاملہ مختلف فقہی ممالک کا ہے۔ مسلک دراصل ایک مستقل قانونی نظام ہوتا ہے، لہذا تقیید کو بر اجلا کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ تقیید، جمود اور تعصّب کی علامت نہیں، بلکہ قانونی نظام کے مضبوط اور پختہ ہونے کی علامت ہے۔ فقہاء مجتہدین کے طے کردہ اصولوں کی روشنی میں نہ مبنی مسائل کا حل ڈھونڈنا اصطلاحاً ”تخریج“ کہلاتا ہے اور ہماری عدالتیں تخریج ہی کے اصول پر عمل کرتی ہیں نہ کہ تقیید کے اصول پر۔^(۳۲) تاہم، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، دور حاضر میں تلفیق کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور اسے روشن خیالی، غیر جانبداری اور معروضیت کی علامت سمجھا جاتا ہے، مختلف ممالک سے Cut and Paste کے نتیجے میں ایک نئی فقہ وجود میں آ رہی ہے، ایسی فقہ جو اصولی تضادات پر مبنی ہوتی ہے؛ تاہم اگر اندر رونی تضادات کو نظر انداز بھی کیا جائے تو اس طریق کارکوزیادہ سے زیادہ ایک نیا مسلک قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پہیہ دوبارہ ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

ویگر اسلامی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی تعریراتی قوانین کے اسلامیانے (Islamization) کے عمل میں یہ طرزِ عمل اختیار کیا گیا ہے کہ فقہ اسلامی اور انگریزی قانون کے مختلف، بلکہ بسا اوقات باہم متصادم، اصولوں کو ایک ہی قانون میں مصنوعی پیوند کاری کے ذریعے یک جا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دراصل قانون سازی کے کام سے مسلک بیشتر افراد اور عدالتیں کا موقف یہ رہا ہے کہ راجح الوقت انگریزی قوانین میں اکا ڈکا تبدیلیاں کر کے انہیں مشرف بہ اسلام کیا جاسکتا ہے۔ اس پیوند کاری کے عمل کے نتیجے میں وجود میں آنے والے قوانین نہ صرف اندر رونی تضادات کا شکار ہوتے ہیں بلکہ اکثر ان قوانین میں ایسا خلاپیدا ہو جاتا ہے جسے پر کرنے کے لیے عدالت کو اپنے دارکرہ کارے آگے بڑھ کر باقاعدہ قانون سازی کا منصب اختیار کرنا پڑتا ہے۔

اندر رونی تضادات کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ حدِ قذف آرڈی نہیں کی دفعہ ۳، استثنائے دوم کے مطابق

”نیک نتیٰ“ (Good Faith) کی بنیاد پر لگایا گیا زنا کا الزام ”قذف“ نہیں ہے۔

۳۲۔ تخریج کے طریق کارکی تفصیلی وضاحت کے لیے دیکھیے:

It is not 'qazf' to prefer in good faith an accusation of 'zina' against any person to any of those who have lawful authority over that person with respect to the subject matter of accusation:

(یہ تذف نہیں ہے کہ کسی شخص کے خلاف زنا کی شکایت نیک نیت کے ساتھ ان لوگوں کو کی جائے جو اس شکایت کے متعلق اس شخص پر قانونی اختیار رکھتے ہوں۔)

یہ استئن اصر احتا اسلامی قانون سے متصادم ہے اور اس نے عملًا عذر تذف آرڈی نہیں کو غیر موثر کر دیا ہے۔ عام جرائم کے بر عکس قذف کے معاملے میں شریعت نے نیت کو سرے سے غیر متعلق قرار دیا ہے، گواہ اگریزی قانون کی اصطلاح میں یہ ایک strict liability offence (تحت ذمہ داری کا جرم) ہے۔ فقہاء تصریح کی ہے کہ جب مقدمہ زنا میں چار گواہ پیش ہوتے ہیں تو ان میں ہر گواہ کی گواہی تہاد یکجھی جائے تو تذف ہی ہے، لیکن جب چار گواہ پورے ہو جائیں تو ان چاروں کی گواہی مل کر زنا کے ملزم کے خلاف جست بن جاتی ہے۔

الشهادة على الزنا قذف في الحقيقة، و لكن بتكميل العدد يتغير حكمها، فيصير

حجۃ الحد. (۳۳)

(زن کی شہادت فی الحقيقة قذف ہے لیکن عدد کے پورا ہونے سے اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ حد کی جست بن جاتی ہے۔)

پس جب تین گواہ زنا کے متعلق گواہی دے دیں مگر چوتھا گواہ گواہی دینے سے رک جائے، یا اس کی گواہی زنا کے اثبات میں صریح نہ ہو، تو پہلے تین گواہوں پر قذف کی حد تاذف کی جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے خلاف گواہی دینے والے تین اشخاص پر اسی بنابر حدِ قذف جاری کی تھی۔ (۳۴)

۳۳۔ ثُمَّ الْأَكْمَهُ سُرْخِيُّ، المبسوط ، بیروت، دار الكتب العلمية، ۱۹۰۱ء، کتاب الحدود، ج ۹، ص ۱۰۷

۳۴۔ اس واقعے کی روایت مختلف کتب حدیث میں ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ کریں: مسنون الشافعی، ج ۱، ص ۵۲؛ حدیث رقم ۲۲۷؛ مصنف عبد الرزاق، ج ۷، ص ۳۸۳، حدیث رقم ۳۵؛ المعجم الكبير، ج ۷، ص ۱۱۳، حدیث رقم ۷۲۷؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج ۵، ص ۳۹۹، حدیث رقم ۲۸۳۶۷؛ حدیث رقم ۱۳۵۶۵ و ۱۳۵۶۶، ج ۸، ص ۳۶۲، حدیث رقم ۱۵۵۳۹؛ سنن البیهقی، ج ۸، ص ۲۳۲، حدیث رقم ۱۶۸۱۹؛ ۱۶۸۲۰، ۱۶۸۲۱، حدیث رقم ۱۳۲۹۷؛ نصب الرأیة، ج ۳، ص ۳۲۹

ص ۵۳۳، حدیث رقم ۲۸۸۲۲؛ سنن البیهقی، ج ۸، ص ۲۳۲، حدیث رقم ۱۶۸۱۹، ۱۶۸۲۰، ۱۶۸۲۱، حدیث رقم ۱۳۲۹۷؛ نصب الرأیة، ج ۳، ص ۳۲۹

چنانچہ اس استشائی کوئی فقہی بنیاد نہیں ہے، بلکہ درحقیقت یہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۳۹۹ سے مخوذ ہے جس کی آٹھویں استشائی کے الفاظ یہ ہیں :

It is not defamation to prefer in good faith an accusation against any person to any of those who have lawful authority over that person with respect to the subject matter of accusation.

(یہ ازالہ حیثیتِ عرفی نہیں ہے کہ کسی شخص کے خلاف کوئی شکایت نیک نیت کے ساتھ ان لوگوں کو کی جائے جو اس شکایت کے متعلق اس شخص پر قانونی اختیار رکھتے ہوں۔)

اب مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ انگریزی قانون کے اصولوں کے تحت ازالہ حیثیتِ عرفی کا جرم strict liability offence (defamation) نہیں ہے۔ اس لیے اس جرم سے نیک نیت کا استشنا مناسب تھا، مگر قذف سے یہ استشنا کسی صورت درست نہیں ہے۔ درحقیقت حد زنا آرڈی نہیں کے خلاف استعمال کو روکنے کا سب سے مناسب طریقہ حد قذف آرڈی نہیں کو موکر بنا تھا، مگر حد قذف آرڈی نہیں کو اس استشنا نے عملًا بالکل ہی معطل کر دیا ہے۔

ایک اور مثال زنا کے جرم کے متعلق قانون ہے جو اندر وطنی تضادات کا شاہ کار ہے۔ انگریزی Common Law کے تحت زنا کی دو بڑی قسمیں تھیں : زنا بالرضاء اور زنا بالجبر۔ زنا بالجبر کو Rape کا نام دیا گیا اور اسے مطلقًا جرم سمجھا جاتا تھا، جب کہ زنا بالرضاء کو صرف اسی صورت میں قانون کی خلاف ورزی سمجھا جاتا تھا جب اس فعل کی مرتكب خاتون شادی شدہ ہوتی۔ اس صورت میں اسے Adultery (یعنی "زنابِ زن غیر" کہا جاتا تھا) اور بنیادی طور پر اسے جرم کے بجائے شوہر کے خجی حق کے خلاف اقدام (Tort Against Marital Right) کہا جاتا تھا، اگر زنا کے مرتكب جوڑے کے دونوں افراد غیر شادی شدہ ہوتے تو اس فعل کو سمجھا جاتا تھا Fornication کہا جاتا تھا جسے اخلاقی برائی سمجھنے کے باوجود Common Law کے تحت جرم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہندوستان کے مخصوص حالات کے پیش نظر انگریزوں نے مجموعہ تعزیرات ہند میں Rape کے ساتھ ساتھ Adultery کو بھی جرم قرار دیا تھا، لیکن اس جرم پر فوج داری کا رروائی شروع ہونے کے لیے ضروری تھا کہ شوہر اس جرم کی شکایت کا اندر راجح کروائے؛ اس کی وجہ یہی تھی کہ Common Law کے اصولوں کے تحت اس فعل کو شوہر کے حق کے خلاف اعتدال سمجھا جاتا تھا، چنانچہ اس جرم کو "ازدواجی تعلق کے خلاف جرائم" کے باب میں

رکھا گیا تھا۔ جہاں تک Fornication کا تعلق ہے تو وہ اس قانون کے تحت جرم نہیں تھا۔ یہ قانون پاکستان میں حدود قوانین کے نفاذ تک راجح رہا۔^(۳۵)

حد زنا آرڈی نہیں نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۵۷۵ کو، جس کے تحت Rape کے جرم پر سزاوی جاتی تھی، ختم کر کے جرم زنا کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا: زنا بالرضاء اور زنا بال مجرم، پھر ان میں سے ہر قسم کو دو قسموں، مستوجب حد اور مستوجب تعزیر، میں تقسیم کیا۔ ”زنا بال مجرم مستوجب حد“ کے لیے وہی معیار ثبوت مقرر کیا گیا جو ”زنا مستوجب حد“ کے لیے ہے، یعنی مجرم کا اقرار یا چار مسلمان مردوں کی عین شہادت۔ اس شق پر بہت زیادہ اعتراضات ہوئے اور بالآخر ”قانون تحفظ نسوان ۲۰۰۶ء“ نے حد زنا آرڈی نہیں سے زنا بال مجرم کے متعلق تمام دفعات ختم کر کے تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۵۷۵ کا احیا کیا، البتہ اپنے دوسرے جنم میں دفعہ ۵۷۵ پہلے جنم سے کچھ مختلف ہے؛ چنانچہ ایک طرف تو Rape کے جرم کو مردوں کے ساتھ خاص کیا گیا۔ اصل دفعہ ۵۷۵ میں، جسے انگریزوں نے وضع کیا تھا، یہ جرم کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے شخص کے خلاف کر سکتا تھا۔ اب نئی دفعہ ۵۷۵ کے تحت یہ جرم کوئی مرد کسی عورت ہی کے خلاف کر سکتا ہے۔ دوسرے افراد یہ ہے کہ اصل دفعہ ۵۷۵ میں شوہر کو اتنا شاہد یا گیا تھا، جب کہ نئی دفعہ ۵۷۵ میں یہ اتنا ختم کر دیا گیا ہے۔ بہ الفاظ دیگر، تعزیرات پاکستان میں اب Marital Rape نامی جرم بھی وجود میں آگیا ہے۔ بیوی کے ساتھ زبردستی مباشرت کا ارتکاب چاہے ناپسندیدہ عمل ہو، اور چاہے بعض صورتوں میں اسے قابل تعزیر بھی قرار دیا جاسکے، مگر کیا اسے قرار دیا جاسکتا ہے؟

دوسری طرف قانون تحفظ نسوان ۲۰۰۶ء نے حد زنا آرڈی نہیں سے تعزیرات کے متعلق تمام دفعات ختم کر کے ان میں سے اکثر کو تعزیرات پاکستان میں جگہ دے دی ہے۔ اس بات پر اصولاً کوئی بڑا اعتراض شاید نہ کیا جاسکے، لیکن اس کو بیش میں ایک نہایت دور رستائج کی حامل ترمیم بھی کی گئی ہے؛ چنانچہ تعزیرات پاکستان میں دفعہ ۳۹۶-B کا اضافہ کر کے Fornication کا جرم تخلیق کیا گیا ہے۔ طرف تماشیہ ہے کہ اس دفعہ کے تحت Fornication کے جرم کی تعریف وہی ہے جو حد زنا آرڈی نہیں کی دفعہ ۳ کے تحت زنا کی ہے۔ بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان دونوں قوانین کے تحت جرم کے اثبات کے طریق کا اور اسرا میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ پس زنا کے جرم کے اثبات کے لیے چار مسلمان عین گواہوں کی ضرورت ہے، جب کہ Fornication کے

۳۵ - تعزیرات پاکستان کی پرانی دفعہ ۵۷۵ کے تحت Rape کی تعریف دی گئی جب کہ دفعہ ۳۷۴ کے تحت اس جرم پر عمر قید تک سزاوی جاسکتی تھی۔ دفعہ ۳۹۶ کے تحت Adultery یا ”زنازن غیر“ کی تعریف دی گئی تھی۔

جرم کے اثبات کے لیے دو عینی گواہوں کی ضرورت ہے جن کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ زنا کا جرم ثابت ہو جائے تو مجرم کو حد کی سزا (سو کوڑے یا رجم) دی جائے گی، جب کہ Fornication کا الزام ثابت ہونے کی صورت میں مجرم کو پانچ سال تک قید اور پانچ ہزار روپے تک جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ زنا کا الزام غلط ثابت ہونے کی صورت میں الزام لگانے والے کو حدِ قذف کی سزا (اسی کوڑے) دی جائے گی، جب کہ Fornication کا الزام غلط ثابت ہونے کی صورت میں الزام لگانے والے کو پانچ سال تک قید اور پانچ ہزار روپے تک جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ زنا کے مقدمے میں اپیل و فاقی شرعی عدالت کو، جب کہ Fornication کے مقدمے میں اپیل ہائی کورٹ کو کی جائے گی، گویا اب ایک ہی فعل پر دو مختلف قوانین کا اطباق ہوتا ہے اور ایک ہی فعل کے باطل مختلف متنازع برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دو مختلف نظام ہائے قوانین کے اصولوں کو یک جا کرنے کے کیا نظرناک متنازع نکلتے ہیں۔

دو مختلف نظام ہائے قوانین کے اصول کو یک جا کرنے سے قانون میں جو خلاپیدا ہوتا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ تعزیراتِ پاکستان میں پہلے انگریزی قانون کے اصولوں کے تحت زخموں کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا گیا تھا: عام زخم (simple hurt) اور شدید زخم (grievous hurt)۔^(۳۷) اس اصول کا اثر تعزیرات پاکستان کی کئی دفعات پر پڑا۔ جب قصاص و دیت کی دفعات تعزیرات پاکستان کے باب ۲۶ میں داخل کی گئیں تو زخم اور قتل کے متعلق پرانی دفعات منسوخ کر دی گئیں۔ اب تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۳۳۲ کے تحت زخم کی پانچ قسمیں ہیں: اتفافِ عضو، اتفافِ صلاحیتِ عضو، بشق، جرح اور دیگر زخم، تاہم ان دفعات کو تبدیل کرنے والے افراد کا خیال دیگر دفعات کی طرف نہیں گیا؛ چنانچہ تعزیرات پاکستان کی دیگر دفعات میں اب بھی زخم کی تقسیم ہی پرانی ہے، یعنی سادہ زخم اور شدید زخم، مثال کے طور پر دفعہ ۱۰۰ میں ان حالات کا ذکر کیا گیا ہے جن میں حملہ کی زد میں آیا ہوا شخص حق دفاع شخصی کے تحت حملہ آور کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ ان میں ایک حالت یہ ذکر کی گئی ہے کہ جب کسی کو یہ اندازہ ہو کہ اگر اس نے حملہ آور کو قتل نہیں کیا تو وہ اسے شدید زخمی کر دے گا:

Such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault.

(ایسا حملہ جس سے تدرتی طور پر خدشہ پیدا ہوتا ہو کہ بے صورت دیگر یہ حملہ شدید زخم پر بٹھ ہو گا۔)

۳۷ - تعزیرات پاکستان کی پرانی دفعہ ۳۲۰ کے تحت زخموں کی یہ دو قسمیں ذکر کی گئی تھیں۔ اس دفعہ کو قصاص و دیت ایکٹ نے منسوخ کر دیا ہے۔

اب جب کہ grievous hurt کے متعلق دفعات منسوخ ہو چکی ہیں یہ عدالت کی ذمہ داری ہو گئی کہ وہ واضح کرے کہ مثال کے طور پر شجر کی کونسی قسم کو grievous hurt کہا جائے گا؟ ایک اور مثال یہ ہے کہ حدِ قذف آرڈی نیس کی دفعہ ۱۲ کے تحت لعan کا جو طریقہ کار مقرر کیا گیا تھا سے قانون تحفظ نسوان ۲۰۰۶ء کے تحت کی گئی تراجم نے انتہائی حد تک ناقص کر دیا ہے۔ اس دفعہ کی تیسری شق کے تحت قرار دیا گیا تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر الزام لگانے کے بعد لعan کے طریقہ کے مطابق قسم اٹھانے سے گریز کرے تو اسے مجبوس رکھا جائے گا تا آں کہ وہ قسم اٹھائے۔ اسی طرح اگر شوہر قسم اٹھائے لیکن بیوی قسم اٹھانے سے گریز کرے تو اسے مجبوس کیا جائے گا تا آں کہ یا تو وہ جرم کا اقرار کرے یا قسم اٹھائے۔ اس دفعہ کی چوتھی شق میں قرار دیا گیا تھا کہ اگر بیوی جرم کا اقرار کرے تو اسے حد کی سزا دی جائے گی۔ قانون تحفظ نسوان نے یہ دونوں شقیں ختم کر دی ہیں۔ اس کی وجہ وزیر قانون نے اس قانون کے مسودے کو پارلیمنٹ میں پیش کرتے وقت یہ ذکر کی تھی کہ لعan تنفس نکاح کا ایک طریقہ ہے اور اس کا فوج داری قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چنانچہ مسلمانوں کے تنفس نکاح کے قانون کی دفعہ ۲ ذیلی دفعہ^{vii} میں ایک شق کا اضافہ کر کے ”لعan“ کی یہ تعریف شامل کی گئی:

Lian means where the husband has accused his wife of zina and the wife does not accept the accusation as true.

(لعاں سے مراد یہ صورت ہے کہ شوہر بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور بیوی اس الزام کی صداقت سے انکاری ہو۔) یہ تعریف واضح طور پر ناقص ہے، کیوں کہ صرف شوہر کے الزام اور بیوی کے انکار کو لعاں نہیں کہتے، بلکہ اس الزام اور انکار کے بعد دونوں فریق قسم اٹھائیں گے اور باہم ملاعت کریں گے جس کے بعد ہی تنفس نکاح کا حکم جاری کیا جائے گا۔ اب اگر بیوی نے جرم کا اقرار کیا یا فریقین میں کسی نے قسم اٹھانے سے انکار کیا تو ان صورتوں میں کیا کیا جائے گا؟ قانون اس سلسلے میں خاموش ہے، چنانچہ اس خلاف پر کرنا عدالت کا کام ہے اور اگر عدالت وہی کچھ قرار دے جو منسوخ شدہ شقوں میں پہلے ہی سے قرار دیا گیا تھا تو پھر ان شقوں کی منسوخی کا جواز کیا تھا؟

فصل سوم: اسلامی سزاوں کا نظام

سزاوں کے متعلق اسلامی قانون پر پاکستان میں جو مباحثہ ہوا ہے اس کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قانون کے اندر وینی نظام کے متعلق کئی غلط فہمیاں عام ہو گئی ہیں، اس لیے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اس نظام کے بنیادی خدوخال کی تفصیلی وضاحت کی جائے۔

اولاً: حدود اللہ اور حقوق اللہ

کسی بھی قانون میں مقررہ سزاوں کا تعلق بعض حقوق سے ہوتا ہے، اس لیے سزاوں کے نظام کے بھئے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ متعلقہ حقوق کے نظام کو پہلے سمجھ لیا جائے۔ مثال کے طور پر انگریزی قانون کے اصولوں کے مطابق حقوق کو بنیادی طور دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: انفرادی حق (Private Right) اور اجتماعی حق (Public Right)۔ انفرادی حق کی مزید دو قسمیں کی گئی ہیں: Right in personam یعنی وہ حق جو کسی مخصوص شخص پر یا اشخاص کے مخصوص گروہ پر میسر ہو، اور Right in rem جس کی رعایت پوری دنیا میں واجب ہو۔ Right in personam عقد کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، چنانچہ عادین میں کوئی دوسرے کے حق کے خلاف اعتدال کرنے تو دوسرے عاقد کو اس کے خلاف عدالتی کا رواںی کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر اعتدال کو Right in rem پر ہو تو اسے Tort کہتے ہیں، جب کہ Public Right کے خلاف اعتدال کو یعنی جرم کہا جاتا ہے۔ گواہی Crime اور Tort میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اول الذکر انفرادی حق کے خلاف اعتدال ہے، جب کہ ثانی الذکر اجتماعی حق کے خلاف۔ چنانچہ Tort کی صورت میں متنازعہ فرد ہی کا رواںی کر سکتا ہے، جب تک Crime کی صورت میں ریاست متنازعہ فریق کے طور پر کارروائی کرتی ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ Tort کی صورت میں متنازعہ فریق تعدی کرنے والے کے خلاف دیوانی عدالت میں تباہ کے لیے مقدمہ دائر کرتا ہے، جب کہ Crime کی صورت میں ریاست، تعدی کرنے والے کو سزا دینے کے لیے اس کے خلاف فوج داری کارروائی کرتی ہے۔ Tort میں معافی اور صلح کا اختیار متنازعہ فرد کے پاس، جب کہ Crime میں یہ اختیار ریاست کے پاس ہوتا ہے۔ بعض اوقات قانون ایک ہی فعل کو جو یک وقت انفرادی اور اجتماعی دونوں حقوق کے خلاف اعتدال قرار دیتا ہے۔ اس صورت میں اعتدال پر جو یک وقت Tort اور Crime دونوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس قسم کے اعتدال کو Felonious Tort کہتے ہیں۔^(۳۷)

اسلامی قانون میں بھی حقوق کی ایک مخصوص تقسیم پائی جاتی ہے۔ چنانچہ عام طور پر معلوم ہے کہ حدود سزاوں کا تعلق حق اللہ سے، جب کہ تحریر کا تعلق حق العبد سے ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہے کہ بعض سزاوں کا تعلق ایسے حق سے ہوتا ہے جو جو یک وقت حق اللہ اور حق العبد، یا به الفاظ دیگر ”حق مشترک“ ہوتا ہے، جیسے

۳۷۔ انگریزی قانون میں ان حقوق کی تقسیم اور Tort اور Crime کے درمیان فرق کی تفصیل کے لیے دیکھیجیے:

Ratanlal Ranchoddas and Manharlal Ratanlal, *The Law of Torts* (Lahore: Mansoor Book House, 1989), 3-5

قدف اور قصاص کا معاملہ ہے، تاہم قدف میں حق اللہ، جب کہ قصاص میں حق العبد غالب ہوتا ہے۔ انگریزی قانون کی تقسیم سے لاشعوری طور پر متاثر ہونے کے سبب سے کئی لوگوں نے قرار دیا کہ اسلامی قانون میں حق العبد سے مراد Private Right اور حق اللہ سے مراد Public Right ہے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بعض اوقات فقہاء حنفی السلطان یا حق الامام کی بھی بات کرتے ہیں تو انہوں نے قرار دیا کہ حق الامام اور حق اللہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ چنانچہ اسلامی نظریاتی کو نسل کی روپورٹ میں قرار دیا گیا ہے :

Hudood crimes are defined generally as crimes against God.^(۲۸)

They may be described as crimes against community or state.

حدود جرائم کی تعریف عموماً یوں کی جاتی ہے کہ یہ خدا کے خلاف جرائم ہیں۔ انھیں معاشرے پر ریاست کے خلاف جرائم بھی کہا جاسکتا ہے۔

اسی طرح حد رابہ کی تعریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے :

Why was the crime of Haraba limited to offences against property in the Hudood Ordinance? Is it the only crime against God and the Prophet, or in modern parlance, against the society and the state.^(۲۹)

(حدود آرڈننس میں کیوں حرابة کے جرم کو مال کے خلاف جرائم تک محدود کیا گیا؟ کیا خدا اور رسول کے خلاف، یا جدید اصطلاح میں معاشرے اور ریاست کے خلاف، یہی تباہ جرم ہے؟) یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو دیگر کئی سنگین غلطیوں کا باعث بنی ہے۔ حق جس کا ہوتا ہے اسے جرم کی معافی کا بھی اختیار ہوتا ہے، اگر حقوق اللہ اور حقوق الامام ایک ہی ہوتے تو پھر جن جرائم کو حقوق اللہ سے متعلق سمجھا جاتا ہے (حدود) ان میں ریاست کے پاس معافی کا اختیار ہوتا۔ اسی طرح حق کے مختلف ہونے کی وجہ سے جرم کے ثبوت اور بعض دیگر متعلقہ مسائل (مثلاً شہبے کا اثر) بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔^(۳۰) بعض اوقات دو حقوق مل کر ایک مشترک حق بناتے ہیں۔ ایسی صورت میں غالب حق کی رو سے احکام کا تعین ہوتا ہے۔

۳۸۔ اسلامی نظریاتی کو نسل کی روپورٹ، ص ۱۵۱

۳۹۔ نفس مرجع، ص ۱۳۲

۴۰۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے:

فہمے احتاف نے حدِ قذف کے مساواتام حدود سزاوں کو بالعموم حقوق اللہ سے متعلق قرار دیا ہے۔ حدِ قذف کو انہوں نے بندے اور خدا کا مشترک حق قرار دیا ہے، تاہم ساتھ ہی یہ بھی قرار دیا ہے کہ اس میں اللہ کا حق غالب ہے۔ گویا نتیجہ یہ ہے کہ حدِ قذف میں بھی کسی کے پاس معافی کا اختیار نہیں ہے۔ حق فقیہ علاؤ الدین کا سانی لکھتے ہیں:

و كل جنایة يرجع فسادها إلى العامة و منفعة جزائها يعود إلى العامة، كان الجزاء الواجب بها حق الله عز شأنه على الخلوص تأكيدا للنفع والدفع، كي لا يسقط بإسقاط العبد، وهو معنى نسبة هذه الحقوق إلى الله تبارك و تعالى... وإذا ثبت أن حد القذف حق الله تعالى خالصا أو المغلب فيه حقه فنقول : لا يصح العفو عنه؛ لأن العفو إنما يكون من صاحب الحق، ولا يصح الصلح والاعتراض، لأن الاعتراض عن حق الغير لا يصح، ولا يجري فيه الإرث، لأن الإرث إنما يجري في المتروك من ملك أو حق للمورث... ولم يوجد شيءٌ من ذلك فلا يورث، ويجري فيه التداخل...^(۲۱)

(اور ہر وہ جرم جس کے مفاسد عامۃ الناس تک پہنچیں اور اس کی سزا کے فوائد بھی عامۃ الناس کو پہنچیں، اس کی واجب سزا اللہ عز شانہ کا خالص حق ہے، تاکہ اس کے فوائد کا حصول اور مفاسد کی روک تھام یقینی ہو، تاکہ وہ سزا بندے کے ساقط کرنے سے ساقط نہ ہو۔ اور یہی مفہوم ہے ان حقوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کا۔۔۔ اور جب یہ ثابت ہو اک حدِ قذف اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہے، یا اس میں غالب حق اللہ کا ہے تو ہم کہتے ہیں (کہ اس کے نتائج یہ ہیں) کہ اس کا حدِ قذف کرنا صحیح نہیں ہے، کیون کہ معافی صاحب حق کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں صلح یا عوض قبول کرنا بھی صحیح نہیں، کیون کہ کسی اور کے حق کا عوض لینا (یا کسی اور کے حق پر صلح کرنا) صحیح نہیں۔ اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، کیون کہ وراثت تومورث کی چھوڑی ہوئی ملکیت یا حق میں جاری ہوتی ہے۔۔۔ اور اس قسم کی کوئی چیز یہاں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس میں وراثت نہیں ہوتی۔ اور اس میں تداخل جاری ہوتا ہے (یعنی ایک ہی نوعیت کے کئی جرائم کے ارتکاب پر ایک ہی سزا ملتی ہے)۔

قصاص و دیت کے معاملے میں مقدار کا تعین اگرچہ کتاب و سنت ہی نے کیا ہے مگر یہ ایسے حق مشترک سے متعلق ہیں جس میں حق العبد غالب ہے۔ بھی وجہ ہے کہ قصاص و دیت میں تمام فہمہ کے نزدیک غنو اور صلح جائز ہے۔ تغیری سزاوں کو احتاف نے خالص حق العبد قرار دیا ہے۔ کا سانی کہتے ہیں:

۲۱۔ علاؤ الدین کا سانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کتاب الحدود، باب صفات الحدود، کوئٹہ، مکتبہ رشیدیہ،

ومنها: أنه يتحمل العفو والصلح والإبراء؛ لأنَّه حق العبد خالصاً، فتجرِي فيه هذه الأحكام، كما تجري فيسائر الحقوق للعباد من القصاص وغیره بخلاف الحدود، ومنها: أنه يورث كالقصاص وغيره؛ لما قلنا، ومنها: أنه لا يتدخل؛ لأنَّ حقوق العبد لا تتحمل التداخل - بخلاف الحدود.

(۲۲) اور تعزير کی ایک صفت یہ ہے کہ اس میں معانی، صلح اور بری الذمہ قرار دینا ہو سکتا ہے، کیوں کہ یہ بندے کا خالص حق ہے۔ پس اس میں یہ سارے احکام جاری ہوتے ہیں جیسا کہ یہ بندوں کے باقی حقوق، مثلاً قصاص وغیرہ میں جاری ہوتے ہیں، پر خلاف حدود کے۔ اور اس کی ایک صفت یہ ہے کہ قصاص کی طرح اس میں بھی وراشت چلتی ہے، اس کی وجہ وہی ہے جو تم نے ذکر کی (کہ یہ بندے کا حق ہے)۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ حدود کے بر عکس اس میں تداخل نہیں ہوتا، کیوں کہ بندے کا حق تداخل کا متحمل نہیں ہے۔

تاہم شافعی فقہا کا موقف یہ ہے کہ تعزیر حق اللہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ (۲۳) اس موقف کو اگر حنفی فقہا مانتے ہیں تو اس کا نتیجہ تضاد اور تصادم کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متاخرین فقہاء احتفاف میں جنہوں نے اس قول کی تائید کی ان کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ جب تعزیر حق اللہ سے متعلق ہو تو پھر اس میں معانی نہیں دی جاسکتی۔ (۲۴)

واضح رہے کہ فقہاء کے نزدیک تعزیری سزاد سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کاسانی لکھتے ہیں :

وأما قدر التعزير فإنه إن وجب بجنابة ليس من جنسها ما يجب الخد، كما إذا قال لغيره: يا فاسق، يا خبيث، يا سارق، ونحو ذلك - فالإمام فيه بالخيار إن شاء عزره بالضرب، وإن شاء بالحبس، وإن شاء بالكهر والاستخفاف بالكلام... وإن وجب بجنابة في جنسها الخد لكنه لم يجب؛ لفقد شرطه كما إذا قال لصبي أو مجنون: يا زاني.. فالتعزير فيه بالضرب ويبلغ أقصى غaiياته. وذلك تسعه وثلاثون في قول أبي حنيفة - عليه الرحمه. (۲۵)

جہاں تک تعزیر کی مقدار کا تعلق ہے تو اگر وہ ایسے جرم کی وجہ سے واجب ہوئی ہو جس کی جنس میں حد کی سزا نہیں ہے، مثلاً اگر اس نے کسی سے کہا اے فاسق! اے خبیث، اے چور! تو حاکم کو اختیار ہے، چاہے تو اسے مارے، چاہے تو اسے

۲۲- کاسانی، مرجع سابق، کتاب الحدود، باب صفة التعزير، ج ۵، ص ۵۳۶

۲۳- ابو الحسن علی بن محمد اور دی، الأحكام السلطانية و الولايات الدينية، قاهرہ، المطبعة المحمدية، ۱۹۷۳ء، ص ۲۷۸

۲۴- محمد امین ابن عبدالین شاعر، رد المحتار على الدر المختار، قاهرہ، مصطفیٰ البابی الحلبي، تاریخ نہارہ، ج ۳، ص ۱۹۲

۲۵- کاسانی، مرجع سابق، کتاب الحدود، باب صفة التعزير، ج ۵، ص ۵۳۵-۵۳۶

قید کرے، اور چاہے تو سخت بات اور تحریر آمیز کام کے ذریعے اس کی سرزنش کرے۔۔۔ اور اگر تعزیر ایسے جرم کی وجہ سے واجب ہوئی جس کی جنس میں حد کی سزا ہو مگر کسی شرط کے نوٹ ہونے کی وجہ سے واجب نہ ہوئی ہو، مثلاً اس نے کسی پیچ یا پاگل سے کہا 'ایے زانی!'۔۔۔ تو اس میں تعزیر مارنے پیشے کے ذریعے اور اکثر مقدار تک ہو گی جو کہ ابو حنیفہ رض کے قول کے مطابق اتنا لیس کوڑے ہیں۔

ایسے جرائم جن کا تعلق حق الامام سے ہے اور جن کی سزا کی مقدار کا تعین بھی اولو الامر کے ذمے ہے، ان کو فقہاء احناف نے "سیاست" جرائم کا نام دیا ہے۔ ان جرائم میں معیار ثبوت کا تعین بھی حکومت کے پاس ہے اور معافی کا اختیار بھی وہ رکھتی ہے۔ جرم کی نوعیت کے مطابق سزا کا تعین حکومت کرتی ہے اور اس سلسلے میں اسی کوئی تید نہیں ہے کہ سزا، حد کی مقدار سے زائد نہ ہو۔^(۲۹)

پس انگریزی فوج داری قانون کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ جرم صرف کسی ایک شخص یا چند مخصوص اشخاص کے حق پر نہیں، بلکہ ریاست کے حق پر اعتدال ہے۔ اس کے بر عکس اسلامی قانون، جرم کی بعض اقسام کو اللہ کے حق کے خلاف، بعض اقسام کو فرد کے خلاف اور بعض اقسام کو معاشرے کے حق کے خلاف اعتدال اقرار دیتا ہے۔ پہلی قسم کو "حدود"، دوسری قسم کو "تعزیر" اور تیسرا قسم کو "سیاست" کہتے ہیں۔ ان میں جرائم حدود تو گنتی کے چند جرائم ہیں اور ان کے اثبات کا طریق کار انتہائی دشوار ہے، نیزان میں ملزم کو دیگر جرائم کی بہ نسبت بہت سی رعایتیں دستیاب ہوتی ہیں۔ تعزیر کا ذکر بھی فقہاء حدود کے ضمن میں کہیں کہیں کر دیتے ہیں، سیاست کا ذکر فقہاء شاذ و فنا در ہی کرتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے عصر حاضر میں بہت سے لوگوں نے اس اہم تصور کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہماری سوچی سمجھی رائے ہے کہ انگریزی قانون کے تصور جرم کا قریب ترین مقابل، اسلامی قانون میں یہی سیاست کا تصور ہے اور تعزیرات پاکستان میں مذکور جرائم کی اکثریت کو حد یا تعزیر کے بجائے سیاست ہی کہا جا سکتا ہے۔ سیاست کے تصور کی مدد سے پاکستان میں فوج داری قانون کے بعض بہت پیچیدہ مسائل کا حل نکل سکتا ہے، مگر افسوس ناک امر یہ ہے کہ اسلامی قانون پر جاری بحث میں اس اہم تصور کو تقریباً کمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

۲۶۔ مثال کے طور پر لواطت کے جرم پر دی جانے والی سزا میں موت کو امام ابو حنیفہ حد ذات کے تحت لانے کے بجائے سیاست کے تحت لاتے ہیں۔ (سرخی، المبسوط، کتاب الحدود، ج ۹، ص ۹۰۔ ۹۱) اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے پر مباشرت کی صورت میں دی جانے والی سزا میں موت کو بھی احناف سیاست قرار دیتے ہیں۔ یہی حکم عادی چور، جادوگر، داعی زنداقی اور دیگر مفسدین کا ہے جن کے فساد کے خاتمے کے لیے اور لوگوں کو ان کے شر سے بچانے کے لیے انہیں سزا میں موت دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ (مرغیانی، الہدایۃ شرح بدایۃ المبتدی، کتاب الحدود، ج ۲، ص ۳۲۳۔ ۳۲۷)

بیہاں ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی قانون عقوبات کے متعلق بعض اہم سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے؛ کیوں کہ یہ سوالات یا اعتراضات چند بینا وی غلط فہمیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں اور پاکستان میں قانون سازی کے شعبے سے وابستہ کئی افراد و قیاقو قائم مختلف اسالیب میں ان غلط فہمیوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔

ثانیاً : حدود سزا میں اور حدود اللہ

عام طور پر اسلامی سزاوں کو اس بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے کہ سزا کا تعین قرآن و سنت نے کیا ہے یا اس کا تعین حکومت اور قضاۃ کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، چنانچہ حدود قوانین میں بھی حد کی تعریف یہی دی گئی ہے:Hadd means punishment ordained by the Holy Quran or Sunnah.^(۲۷)

(حد سے مراد قرآن یا سنت میں مقرر کردہ سزا ہے۔)

یہ اسلامی قانون کے متعلق ایک قسم کی over-simplification کے عدم ذکر کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ایک طرف حد کا تصور ادھورا رہ گیا ہے اور دوسری طرف حدود قوانین میں ”شہہر“ کی اصطلاح کا ذکر کہیں نظر نہیں آتا۔

اسلامی نظریاتی کو نسل کی روپورث کے مرتبین بھی اسلامی سزاوں کو اسی زاویے سے دیکھتے نظر آتے ہیں، اس لیے باوجود اس کے کہ وہ حدود سزاوں کو حقوق اللہ سے وابستہ قرار دیتے ہیں، ان کے تجزیے میں اس امر کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ حقوق اللہ سے وابستگی کی وجہ سے حدود سزاوں کی کون سی خصوصیات ہیں جو ان سزاوں کو حاصل نہیں ہیں جو حقوق اللہ سے وابستہ نہیں ہیں۔^(۲۸) وفاقی شرعی عدالت کے چیف جناب آفتاب صین نے رجم کے متعلق مشہور مقدمے ”حضور بخش بنام بریاست“ میں اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ قرآن کریم میں لفظ ”حد“ سزا کے مفہوم میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ احادیث میں یہ لفظ ہر قسم کی سزا کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ ”مقررہ“ سزا کے مفہوم میں۔ انہوں نے اس پر بھی حیرت کا اظہار کیا کہ حدود کو مقررہ سزا میں کہنے کے باوجود فقہا کا اس پر اختلاف ہے کہ کون تی سزا میں حدود ہیں۔ انہوں نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ شرب خمر کی سزا کا

۲۷۔ چاروں آرڈی نیشنز میں حد کی یہی تعریف پیش کی گئی ہے۔ دیکھیے: حد سرقہ و حرابہ آرڈی نیشنز، دفعہ ۲ ذیلی دفعہ ۴؛ حد شرب آرڈی نیشنز، دفعہ ۲ ذیلی دفعہ ایف؛ اور حد زنا آرڈی نیشنز، دفعہ ۲ ذیلی دفعہ بی۔ حد قذف آرڈی نیشنز کی دفعہ ۲ ذیلی دفعہ اے میں قرار دیا گیا ہے کہ اس آرڈی نیشنز میں حد کی تعریف وہی ہے جو حد زنا آرڈی نیشنز کے تحت مقرر کی گئی ہے۔

۲۸۔ اسلامی نظریاتی کو نسل کی روپورث، ص ۲۷۹۔ ۱۳۹

تعین قرآن نے نہیں کیا، سنت میں اس کی مختلف سزا میں ذکر ہوئی ہیں؛ پھر بھی فقہانے اسے حدود میں شمار کیا

(۲۹)
ہے۔

یہاں اس موضوع پر تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں ہے، تاہم چند اشارے پیش کیے جاتے ہیں۔^(۵۰)

”حد“ کا ایک وسیع مفہوم ہے اور ایک محدود، وسیع مفہوم میں اسلامی قانون کے وہ تمام احکام جن کا تعین قرآن یافت نہ کیا ہے اللہ کی مقرر کردہ ”حدود“ ہیں، مقررہ سزا میں ان حدود اللہ کی ایک قسم ہیں۔ اسی مفہوم میں طلاق کے متعلق قرآنی ضوابط کو ”حدود اللہ“ کہا گیا ہے، فقہانے ان حدود اللہ کے تعین میں ہی اپنی

-۸۹ PLD کو نسل کی عبوری رپورٹ کے فاضل مرتبین نے بھی تقریباً اسی طرح کی آراء کاظمیہ کیا ہے۔

”The word Hudud (plural) is used in the Qur'an 10 times, 9 times in the meaning of "limits" (set by God), and once in the meaning of 'commands'. Hudud or hadd in the Qur'an is not used in the meaning of punishment.“ (Report, 137)

(لفظ حدود (جمع) قرآن مجید میں دس مقلمات پر استعمال ہوا ہے، نو مقلمات پر (خدا کی مقرر کردہ) ”حدود“ کے مفہوم میں اور ایک مقام پر ”اوامر“ کے مفہوم میں۔ حدود یا حد قرآن میں سزا کے مفہوم میں استعمال نہیں ہوا۔)
اسی طرح حدیث کے متعلق لکھتے ہیں :

”The use of this term in Hadith literature is not limited to the punishments that later came to be known in fiqh as Hudud.“ (Ibid., 144)

(ذخیرہ حدیث میں اس اصطلاح کا استعمال ان سزاوں تک ہی محدود نہیں ہے جنہیں بعد میں نقہ میں حدود کہا گیا۔)
تاہم یہ غنیمت ہے کہ فاضل مرتبین کم از کم یہ حقیقت تسلیم کرتے ہیں کہ حدیث میں ”حد“ کا لفظ ”مقررہ“ سزا کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں :

”In Arabic language, the word Hadd is used in several different meaning, e.g., edge, border, extremity, terminus, limit. An associated meaning of edge and limit is to prevent and forbid. [] Following the Qur'anic usage, it also came to mean Divine ordinance. Later, probably influenced by Fiqh usage it also acquired the meaning of punishment.“ (Ibid., 136)

(عربی زبان میں لفظ حد مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کنارہ، سرحد، انتہا، آخری نقطہ، حد۔ کنارے اور حد کا ایک مختلط مفہوم رکنا اور ممانعت ہے۔ قرآنی محاورے کی وجہ سے اسے خدا کی قانون کے مفہوم میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ بعد میں شاید نقہ کے اثر کی وجہ سے اس نے سزا کا مفہوم بھی حاصل کر لیا۔)

۵۰ - تفصیل کے لیے دیکھیے:

عمریں صرف کی ہیں۔ یہ اسلامی قانون کا وہ حصہ ہے جو ناقابل تبدیل ہے، ان احکامات میں اجتہاد کے ذریعے تبدیل نہیں کی جاسکتی۔

حدود اللہ کا تعلق حقوق اللہ کے تصور سے بھی ہے۔ فقہاء احکام تکمیلیہ کو مختلف حقوق سے متعلق کیا ہے، جیسا کہ پیچھے ذکر کیا جا چکا۔ جن امور کو حقوق اللہ سے متعلق قرار دیا گیا ہے، ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ جو جرائم حقوق اللہ سے متعلق ہیں، ان کے لیے خصوصی ضوابط ہیں۔ مثلاً ان میں مقدمہ دائر ہونے اور جرم ثابت ہونے کے بعد کسی کو معافی کا اختیار حاصل نہیں ہے، نیز ایسے جرائم کی سزا شہرہ کی بنابر ساقط ہو جاتی ہے۔

واضح رہے کہ فقہاء جب اس بحث میں شہرہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے وہ "شک کافائدہ" (Benefit of the Doubt) مراد نہیں لیتے، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس سے ان کی مراد فعل کے مرتكب کو امر قانونی یا امر واقعی کے سمجھنے میں لاحق ہونے والی خطا (Mistake of Law or of Fact) ہوتی ہے۔ جرم کے ثبوت کے متعلق اگر نجٹ کے ذہن میں کوئی شک ہے تو اس کافائدہ توازن ملزم کو دینا چاہیے، اسلامی قانون کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے؛ تاہم امر قانونی کے سمجھنے میں خطا کو انگریزی قانون کوئی عذر نہیں سمجھتا، جب کہ اسلامی قانون نے حدود سزاویں میں، جو کہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں، اسے عذر منا ہے اور اس کی بنابر حد کی سزا ساقط ہو جاتی ہے۔

جو سزا میں حقوق اللہ سے متعلق نہیں ہیں ان میں شہرہ کا یہ اثر نہیں ہوتا، نیز حقوق اللہ سے متعلق جرائم کے اثبات کے لیے قرآن یا سنت نے خصوصی شرائط مقرر کی ہیں، مثلاً حدِ زنا کے اثبات کے لیے چار عینی گواہوں کی شرط، یا حدِ سرقہ کے لیے نصاب اور حرمتی شرائط۔

فقہاء ان جرائم کی سزاویں کو حدود اللہ کہا ہے جن پر پیچھے ذکر کردہ خصوصیات منطبق ہوتی ہوں۔ مزید برآں ان جرائم کی سزاویں کا تعین قرآن یا سنت نے کیا ہے۔ شرب خمر کو قرآن نے جرم قرار دیا، سنت میں اس کی سزا مختلف بیان ہوئی ہے، لیکن اس پر دیگر ساری خصوصیات منطبق ہوتی تھیں؛ اس لیے فقہاء مختلف طور پر اسے حدمنا ہے۔ سزا کی مقدار کے تعین کے لیے انہوں نے اس روایت کو بنیاد بنا یا ہے جو ان کے نزدیک زیادہ قوی تھی، گویا اس پر تو ان کا اتفاق ہے کہ سزا کا تعین سنت نے ہی کیا ہے جسے سب مستند مأخذ قانون مانتے ہیں، اختلاف صرف اس پر ہے کہ سزا کی مقدار کیا ہے؟

اسلامی نظریاتی کو نسل کی رپورٹ کے فاضل مرتبین فقہاء کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

Why was the crime of Haraba limited to offences against property in the Hudood Ordinance? Is it the only crime against God and the Prophet, or in modern parlance, against the society and the state? The Qur'an (2: 279) describes practice of Riba as violation of the injunctions of God and a war with God and His Apostle... Why is this offence not classified as Haraba? In the Qur'anic verse about drinking, there are three other practices mentioned. Why they are not counted as crimes?

(حدود آرڈننس میں کیوں حرابہ کے جرم کو مال کے خلاف جرام کم محدود کیا گی؟ کیا خدا اور رسول کے خلاف، یا بدید اصطلاح میں معاشرے اور ریاست کے خلاف، بھی تہرا جرم ہے؟ قرآن (سورۃ البقرۃ، آیت ۲۷۹) ربا کے فعل کو خدا کے احکام کی خلاف ورزی اور خدا اور اس کے رسول کے خلاف جنگ سے تبیر کرتا ہے۔۔۔ اس جرم کو کیوں حرابہ نہیں کہا جاتا؟ شرب کے متعلق قرآنی آیت میں تین مزید افعال بھی ذکر کیے گئے ہیں، ان کو جرام میں کیوں شامل نہیں کیا جاتا؟)

اگر اپر ذکر کی گئی شرائط اور خصوصیات پر نظر ہو تو اس اعتراض میں کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف جرام تو بہت ہوں گے، مگر ان میں فقهائی اصطلاح میں "حد" صرف اسی کو کہا جائے گا جس میں مذکورہ بالا خصوصیات پائی جائیں؛ سود کھانے والا یقیناً خدا اور اس کے خلاف جنگ کرتا ہے، وہ یقیناً حق اللہ کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے؛ مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس خلاف ورزی کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ یا خلفاء راشدین میں کسی نے وہ خصوصی ضابط اپنایا ہے جو حرابہ کے لیے انہوں نے اپنایا؟ کیا اس کے اثبات کے لیے بھی دو عینی گواہ درکار ہیں؟ کیا یہ جرم بھی شے کی بنیاد پر ساقط ہو جاتا ہے؟ کیا اس کے لیے بھی مقررہ سزا ہے؟

ربا کی ممانعت اسلام کے پبلک لاکا حصہ ہے، اس لیے دارالاسلام میں غیر مسلم بھی سودی کاروبار نہیں کر سکتے۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاهدے میں رسول اللہ ﷺ نے صراحتاً یہ شرط رکھی تھی کہ وہ ربانیں کھائیں گے۔ (۵۲) اگر کوئی گروہ اس قانون کی خلاف ورزی کرے تو اسلامی حکومت اس کے ساتھ جنگ بھی کر سکتی ہے، مثلاً سیدنا عمرؓ کے زمانے میں نجران کے عیسائیوں کو نجران یمن سے نجران عراق منتقل کیا گیا تو اس کا ایک اہم

۱۵ - کونسل کی رپورٹ، ص ۱۳۳

۵۲ - امام ابو الداؤد اشعث بن سلیمان صحیحی، سنن ابی داؤد، کتاب الخراج و الامارة و الفیی، بابأخذالجزیة، حدیث

سبب یہ تھا کہ انہوں نے سود کھانا شروع کر دیا تھا۔^(۵۲) تاہم جہاں تک فرد کا تعلق ہے، اگر کوئی شخص انفرادی طور پر سود کالین دین کرے تو اسلامی حکومت اسے سیاست کے قاعدے کے تحت مناسب سزا دے سکتی ہے لیکن اس کے لیے کوئی مقررہ سزا نہیں ہے۔ پس اسے کسی طور اصطلاحی مفہوم میں ”حد“ نہیں کہا جاسکتا۔

اسی اصول پر شرپ خمر کو ”حد“ قرار دیا گیا، کیوں کہ، جیسا کہ پچھے واضح کیا گیا، اس پر ”حد“ کی مذکورہ خصوصیات پوری ہوتی تھیں، جب کہ جوئے، بتوں اور پانسوں کو اس لیے ”حد“ نہیں قرار دیا گیا کہ ان پر مذکورہ خصوصیات یا ان میں کوئی ایک پوری نہیں ہوتی تھی۔

اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی فوج داری قانون صرف حدود سزاوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ جب بعض مخصوص جرائم، مخصوص شرائط کے ساتھ اور مخصوص ضابطے کے تحت ثابت ہو جائیں تو یہ مخصوص سزاکیں دی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے ایسا صرف استثنائی صورتوں ہی میں ممکن ہوتا ہے۔ عام حالات کے لیے اسلامی قانون نے تعزیر اور سیاست کے نظریات کے تحت نظام وضع کیا ہے۔ ان میں بالخصوص سیاست کے تحت آنے والے جرائم کے سلسلے میں ریاست کے پاس بہت وسیع اختیارات ہیں۔ ان جرائم کی تعریف، ان کے اثبات کے طریق کار اور ان کے لیے سزاوں کا تعین سب کچھ ریاست کے اختیار میں ہے۔ البتہ ریاست پر یہ پابندی ہو گی کہ وہ اسلامی قانون کے قواعد عامہ کی روشنی میں قانون سازی کرے اور ان قواعد کی خلاف ورزی کسی صورت نہ کرے۔ فقہاء نے بنیادی طور پر توجہ قانون کے اس حصے پر مرکوز رکھی ہے جس کا تعلق حق اللہ سے ہے، جب کہ حق الامام سے متعلق امور میں انہوں نے قواعد عامہ کی توضیح میں عمریں صرف کیں، اس کے بعد کام ریاست کا تھا۔ جب تک ریاست اپنا فریضہ سرانجام دیتی رہی اسلامی قانون، ریاستی سٹھ پر تائف و راجح رہا، جب ریاست نے اپنا فریضہ ادا کرنا چھوڑ دیا تو اسلامی قانون کا وہ حصہ جمود کا شکار ہوا جس کا ارتقا، ریاست کے کام پر مختصر تھا۔ فقہاء کے حصے کے کام میں آج بھی مزید اضافے کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ اسلامی قانون کا وہ حصہ ہے جس پر امت مسلمہ کے بہترین لوگوں نے چودہ سو سال سے زائد عرصہ اپنی تمام صلاحیتیں صرف کی ہیں، اس لیے فقہاء کو مورد الزام ٹھہرانے کے سجائے ریاست پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اسلامی قانون کے قواعد عامہ کی روشنی میں قانون سازی کا فریضہ ادا کرے۔^(۵۳)

۵۲- نقش مصدر

۵۳- اسلامی شریعت کے قواعد عامہ کی روشنی میں قانون سازی کے طریق کا کی تفصیل کے لیے دیکھیے:

پس ان اعتراضات میں کوئی وزن نہیں ہے جو اسلامی قانون کے ڈھانچے سے ناواقف بعض افراد کرتے ہیں، مثلاً یہ کہ گرلنڈز میں کوئی زنا بالجبر کا ارتکاب کرے اور گواہ صرف عورتیں ہوں تو حد زنا نافذ نہیں ہوگی۔^(۵۵) یا یہ کہ غیر مسلم خاتون یا نابالغ مسلمان لڑکی پر زنا کی تہمت لگائی جائے تو اس پر حد قذف عائد نہیں ہوتی کیوں کہ یہ محسنة نہیں ہیں۔^(۵۶) یا یہ اعتراض کہ اگر چوری کی واردات کے گواہ صرف غیر مسلم ہوں تو حد سرقة نافذ نہیں ہوتی۔^(۵۷) یا یہ کہ کئی افراد چوری کا ارتکاب کریں اور مال مسروق کی مساویانہ تقسیم کے بعد اگر کسی کے حصے میں بھی نصاب کی مقدار نہیں آئی تو حد نافذ نہیں ہوگی ”خواہ ماں کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہو۔“^(۵۸)

ثالثاً: انتہائی سزا یا مقررہ سزا

تعزیر اور سیاست کے تفصیلی نظام سے ناواقفیت کی بنیاد پر کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حدود کسی جرم کی ”انتہائی سزا“ ہیں، نہ کہ ”مقررہ سزا۔“ کو نسل کی رپورٹ کے فاضل مرتبین نے بھی فقہاء کو موروالزام ٹھہرایا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی بیان کردہ انتہائی سزاوں کو مقررہ سزاوں کی قرار دے کر ریاست اور عدالت کے اختیار کو بہت محدود کر دیا ہے:

Bribery is forbidden in the Qur'an and it is known that the Prophet and the Companions punished the offenders. But bribery is not a crime of Hadd according to the jurists simply because the jurists focus on the fact whether the punishment is fixed.^(۵۹)

(رشوت قرآن کی رو سے منوع ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ رشوت کے مرتكب افراد کو سزا دیتے تھے، تاہم چونکہ فقہاء کی توجہ صرف اس امر پر مرکوز ہوتی ہے کہ جرم کی سزا مقررہ تھی یا نہیں، اس لیے وہ رشوت کو حد نہیں مانتے۔)

ہماری رائے میں مسئلے کی یہ تعبیر بالکل غلط ہے، فقہاء صرف اس امر پر ہی توجہ نہیں دیتے کہ جرم کی سزا مقررہ ہے یا نہیں، بلکہ ساتھ ہی اس پر بھی توجہ دیتے ہیں کہ کیا وہ معاملہ حقوق اللہ سے متعلق ہے یا نہیں، اگر وہ

۵۵۔ ڈاکٹر طفیل ہاشمی، حدود آرڈی نیشن کا ایک جائزہ، ص ۷۸

۵۶۔ ہاشمی، مرجع سابق، ص ۱۰۹-۱۱۰

۵۷۔ نفس مرجع، ص ۱۳۱

۵۸۔ نفس مرجع، ص ۱۳۲

۵۹۔ کو نسل کی رپورٹ، ص ۱۵۰

حقوق اللہ سے متعلق ہے تو اس پر وہ تمام احکام لاگو ہوں گے جو حقوق اللہ سے متعلق احکام پر لاگو ہوتے ہیں (مثلاً اثبات کا خصوصی ضابطہ، شبہ کی بنا پر سزا کا سقوط، تداخل، عدم عفو وغیرہ)۔ کسی کام میں جب یہ دونوں خصوصیات یک جا ہوں، یعنی وہ کسی حق اللہ سے بھی متعلق ہو اور اس کی سزا بھی مقرر ہو، تب فقہا اسے حد قرار دیتے ہیں، رشوٹ کو اسی وجہ سے حد نہیں قرار دیا جاسکتا۔ دراصل ناقدین کی اپنی توجہ سزا کے "مقررہ" ہونے کی طرف ہے، اس لیے وہ دوسرے اہم پہلو (حق اللہ سے متعلق ہونا) کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گویاحد اور غیر حد میں فرق اگر ہے تو یہی ہے کہ ایک میں سزا مقرر ہے اور دوسرے میں قاضی یا حاکم کی صواب دید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

حدود سزاوں کو "انہتائی سزا بھیں" قرار دینے کی کوشش کے پیچے اصل میں یہی غلط فہمی کار فرماء ہے کہ اسلامی قانون میں سزا بس حد ہی کا نام ہے۔ ناقدین، تعزیر اور سیاست سے یا تو واقف نہیں ہوتے یا ان کا تجزیہ نہیں کرتے، پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان سزاوں کے اثبات کا طریقہ براست ہے تو یا اس طریق کارہی کا انکار کر دیتے ہیں، یاحد و کو انتہائی سزا قرار دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ حد کی سزا بڑی سخت ہے اور اس میں معافی کی گنجائش بھی نہیں ہے تو وہ اسے انتہائی سزا قرار دے کر معافی اور تخفیف کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض جری لوگ تو یہاں تک کہہ بیٹھے کہ حد کی سزا صرف "عادی مجرم" ہی کو دی جائے گی، باقی رہاں اس شخص کا معاملہ جس نے کبھی ایک بار جرم حد کا ارتکاب کیا تو اسے حد کی سزا نہیں دی جاسکتی۔^(۶۰)

اصل میں یہ لوگ اسلامی قانون کی میکانیت (Mechanism) کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں۔ جیسا کہ پیچے تفصیل سے واضح کیا گیا، جب بعض مخصوص جرائم، مخصوص ضابطے کے تحت ثابت ہو جائیں تو ان کے لیے جو مخصوص سزا ہے وہ حد کہلاتی ہے۔ ایسا، ظاہر ہے کہ، بالعموم نہیں ہوتا بلکہ استثنائی حالات ہی میں ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کسی جرم کی انتہائی سزا ہے۔ اس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے کہ حد کسی جرم کی مخصوص شکل کی مقررہ سزا ہے؛ ہو سکتا ہے اس جرم کی انتہائی شکل اس مخصوص شکل سے مختلف ہو۔ ایسی صورت میں اس انتہائی شکل میں بھی حد کی سزا نہیں دی جائے گی، نہ اس کے اثبات کے لیے اس مخصوص ضابطے ہی کا اطلاق ہو گا۔

رابعاً: حدود کے لیے معیار ثبوت کا مسئلہ

حدود قوانین کے ناقدین نے حدود جرائم کے اثبات کے لیے درکار نصاب شہادت کو بھی تقدیم کا نشانہ بنایا

ہے۔ جناب جاوید احمد غامدی کہتے ہیں:

ثبوت جرم نے لیے قرآن مجید نے کسی خاص طریقے کی پابندی پوچکہ کسی جگہ لازم نہیں تھیہ ای، اس وجہ سے یہ بالکل قطعی ہے کہ اسلامی قانون میں جرم ان سب طریقوں سے ثابت ہوتا ہے جنہیں اخلاقیات قانون میں مسلم طور پر ثبوت جرم کے طریقوں کی حیثیت سے قول کیا جاتا ہے اور جن کے بارے میں عقل تقاضا کرتی ہے کہ اسے ان سے ثابت ہونا چاہیے۔ چنانچہ حالات، قرآن، طبی معائی، پوسٹ مارٹم، انگلیوں کے نشانات، گواہوں کی شہادت، مجرم کے اقرار، قسم، قسماء اور اس طرح کے دوسرے تمام شواہد سے جس طرح جرم اس دنیا میں ثابت ہوتے ہیں، اسلامی شریعت کے جرائم بھی ان سے بالکل اسی طرح ثابت قرار پاتے ہیں۔^(۶۱)

یہی بات وفاقی شرعی عدالت نے ”بیگم رشیدہ پئیل کیس“^(۶۲) میں کی ہے اور اس کی بازگشت حدود قوانین کے متعلق اسلامی نظریاتی کو نسل کی رپورٹ میں بھی سنائی دیتی ہے، لیکن یہ بات اس قدر عموم کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ عام جرائم کے اثبات کے سلسلے میں اس بات کو نہیں جھٹایا جاسکتا، لیکن کیا حدود کے معاملے میں بھی اسی اصول پر عمل کیا جائے گا؟ جیسا کہ یچھے تفصیل سے ثابت کیا گیا، حدود کا معاملہ دیگر جرائم سے قطعاً مختلف ہے، اس لیے دیگر امور کے احکام کو حدود پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ خود جناب غامدی صاحب اس کے قائل ہیں کہ حد زنا کے معاملے میں شہادت کا ایک خصوصی نصاب قرآن نے مقرر کیا ہے۔

اس صورت میں قرآن کا اصرار ہے کہ اسے (الزم لگانے والے کو) ہر حال میں چار یعنی گواہ پیش کرنا ہوں گے، اس سے کم کسی صورت میں بھی اس کا مقدمہ قائم نہیں ہو سکے گا۔ حالات، قرآن، طبی معایہ، یہ سب اس معاملے میں اس کے

^(۶۳)
نژد یک بے معنی ہیں۔

اگر حد زنا کے معاملے میں شہادت اور اثبات کے عام قواعد کے بجائے ایک خاص ضابطہ مقرر کیا جاسکتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ دیگر حدود کے لیے خاص ضابطہ مقرر نہیں کیا جاسکتا؟ یا اگر قرآن سے ایک حد کے لیے خاص ضابطہ لیا جاسکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ سنت اور اجماع کے ذریعے دیگر حدود کے لیے خصوصی ضابطہ مقرر نہیں کیا جاسکتا؟ اسی طرح بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات اچھی ہے کا باعث ہی ہے کہ حدود قوانین کے مطابق عورتوں اور غیر مسلموں کی گواہی کی بنیاد پر حدود سزاکیں نہیں دی جاسکتیں۔ پہلے عورتوں کی گواہی کا مسئلہ یجھی، اس مسئلے

۶۱۔ جاوید احمد غامدی، بہان، لاہور، المورد، ۱۹۰۱ء، ص ۲۲

میں بعض ناقدین نے فقہا کے موقف کو غلط ثابت کرنے کی جو کوشش کی ہے^(۶۴) اس میں وہ کئی سنگین غلطیوں کے مر تکب ہوئے ہیں مثلاً:

اولاً: انہوں نے ان آیات سے استدلال کیا ہے جن میں مسلمانوں کو عمومی طور پر سچی گواہی دینے کی حدایت دی گئی ہے۔^(۶۵) لیکن انہوں نے خصوصاً حد و سزاوں کے مسئلے میں عورتوں کی گواہی قبول کرنے کے حق میں کسی آیت کا حوالہ نہیں دیا۔ روایات میں عام طور پر اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے جس میں فجر کی نماز کے وقت ایک عورت کے ساتھ زنا کا واقعہ پیش آنے کا ذکر ہوا ہے۔^(۶۶) اس روایت سے بھی استدلال اس لیے غلط ہے کہ ایک تو یہ روایت کئی طور سے نقل ہوئی ہے اور مختلف طرق میں باہم اختلاف اور اضطراب ہے، دوسرے اس روایت کو صحیح بھی قرار دیا جائے تو اس کے بہ موجب عورت مدعاہ تھی نہ کہ گواہ، تیسرا اس مسئلے کاحد سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ سیاست کا معاملہ تھا۔^(۶۷)

۶۴۔ ہاشمی، مرجح سابق، ص ۹۷۔ ۶۵۔ اور ۱۱۱۔ ۶۶۔

۶۷۔ مثلاً سورۃ البقرۃ، آیت ۱۲۰ اور ۲۸۳؛ سورۃ النساء، آیت ۱۳۵؛ سورۃ المائدۃ، آیت ۸؛ سورۃ الطلاق، آیت ۲؛ اور سورۃ المعراج، آیت ۳۳

۶۸۔ سنن أبي داؤد، کتاب الحدود، باب في صاحب الحد يحيى فيقر، حدیث رقم ۳۸۰۶؛ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، سنن الترمذی، کتاب الحدود، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، حدیث رقم ۱۳۷۸
۶۹۔ اس واقعے کی تفصیلات اور جزئیات کے متعلق روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم چند باتیں ایسی ہیں جو یقینی طور پر معلوم ہو جاتی ہیں:

اولاً: یہ کہ ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کا ارتکاب کیا گیا۔

ثانیاً: یہ کہ خاتون نے جب دعویٰ کیا تو اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ وہ چار گواہ پیش کرے۔

ٹھالاً: یہ کہ حدود کے اثبات کے لیے مخصوص ضابطے پر عمل نہیں کیا گیا۔ مثلاً شہبے کے اثر کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا، نہیں مجرم کے محسن یا غیر محسن ہونے کا سوال اٹھایا گیا۔

رابعہ: پہلے شخص کو واقعی شہادتوں کی بنیاد پر سزا نامی گئی۔

اس واقعے پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس خاتون کی آبروریزی کی گئی اس کی تجھن پار پر فوراً ہی لوگ ہجت ہوئے اور فوراً ہی عدالتی کا رواہی بھی شروع ہو گئی۔ یوں فرض کریں کہ کمرہ عدالت سے باہر کوئی جرم واقع ہوا اور تھج نے اس پر فوراً کا رواہی prima facie زیادتی کی۔ خاتون کی حالت سے عدالت کے سامنے یہاں واضح تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ گویا prima facie کا کیس بن پکا تھا۔ اسی وجہ سے خاتون سے چار گواہ طلب نہیں کیے کہ وہ زنا کا الزام نہیں رکھ رہی تھی بلکہ دعویٰ کر رہی (جادی)

ثانیاً: اس سے زیادہ حیرت کا باعث بعض لوگوں کا یہ استدلال ہے کہ حضرت عائشہؓ سے کم و بیش ایک تہائی دینی احکام کی روایت ہوئی ہے۔^(۲۸) کتنے افسوس کی بات ہے کہ حدود قوانین پر تنقید کے جوش میں ناقدین روایت اور شہادت کے فرق کو بھی بھول جاتے ہیں!

(گذشتہ سے پیوست) تھی کہ وہ زیادتی اور جبر کی شکار ہو گئی ہے، چنانچہ، حسیا کہ اوپر واضح کیا گی، نہ اس خاتون پر حد زنا حاکم ہو سکتی تھی اور نہ ہی حد قذف۔ اب اس جرم کا موقع اور محل دیکھیے۔ مدینہ منورہ میں مسجد بنوی کے قریب فجر کی نماز کے وقت اس جرم کا ارتکاب کیا گیا اور اس خاتون کی آبروریزی کی گئی جو نماز پڑھنے جا رہی تھیں۔ پس اس بات میں کوئی شہد نہیں تھا کہ یہ ”فساد فی الارض“ کا جرم تھا۔

اب رہایہ سوال کہ سزا کس بنابر سنائی گئی؟ کیا تھا مستغاثہ کے دعوے کی بنیاد پر؟ روایات میں ایک لونڈی کے متعلق آتا ہے کہ اس کا سر کسی نے بھاری پتھر سے کچل دیا تھا، اس میں کچھ رمق باقی تھی جب لوگ وہاں پہنچے۔ اس کی موت واقع ہونے سے پہلے اس کے سامنے کئی تمہم اور بدنام افراد کے نام لیے گئے جن کے سابقہ کردار کی بنا پر اندازہ تھا کہ ان میں سے کسی نے یہ جرم کیا ہے اور ایک یہودی کا نام لینے پر اس نے سر بلاؤ کر اشارہ دیا کہ ہاں اسی نے یہ جرم کیا ہے۔ و تأویل الحدیث اُنہوں نے امر بذلك علی طریق السياسة، لکونہ ساعیا في الأرض بالفساد، معروفاً بذلك الفعل۔ بیانہ فی ماروی اُنہم ادرکوها و بها رمق، فقيل لها : أ قتلتک فلان ؟ فأشارت برأسها لا، حتى ذكرروا اليهودي فأشارت برأسها أن نعم، وإنما يعد في مثل تلك الحالة من يكون متهمًا بمثل ذلك الفعل معروفاً به۔ و عندنا إذا كان بهذه الصفة، فللإمام أن يقتله بطريق السياسة۔ (سرخس، المبسوط، کتاب الدييات، ج ۲۶، ص ۱۲۶)

(حدیث کی تاویل یہ ہے کہ آپ نے یہ حکم بطور سیاسہ کے دیا کیوں کہ وہ زمین میں فساد کا مرتكب تھا اور اس کام کے لیے معروف بھی تھا۔ اس کی وضاحت اس روایت میں ہے کہ اس عورت کو اس حالت میں پایا گیا کہ اس میں ذرا سی رمق باقی تھی۔ اس سے پوچھا گیا: کیا تمہیں فلاں نے قتل کیا؟ تو اس نے سر کے اشارے سے کہا: نہیں۔ یہاں تک کہ اس یہودی کا ذکر کیا گیا تو اس نے سر کے اشارے سے کہا: ہاں۔ اور اس طرح کی صورت حال میں ان لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں جن پر اس طرح کے کام کا شہد ہوا اور جو اس سلسلے میں بدنام ہوں۔ اور جب کوئی مجرم اس نوعیت کا ہو تو ہمارے نزدیک حکمران کے پاس اختیار ہے کہ اسے بطور سیاسہ سزا میں موت دے۔) پس اس سزا کے بارے میں بھی یہ تاویل کرنی ہو گی کہ جس کو پہلے سزا نمائی گئی قرآن، واقعی شہادتوں اور سابقہ رپورٹس کی بنیاد پر وہ پہلے ہی تمہم تھا، اگر ایسا نہ ہو تا تو رسول اللہ ﷺ کیسے محض مستغاثہ کے الزام کی بندیا پر سزا نہیں آتی۔ البتہ اس واقعے سے ایک حقیقت واضح طور پر سامنے آجائی ہے کہ واقعی شہادتیں اور قرآن خواہ کتنے ہی قطعی کیوں نہ لگتے ہوں ان کے ذریعے جرم کے اثبات میں غلطی کا امکان بہر حال رہتا ہے۔ بھی وجہ ہے کہ حدود اور قصاص کی سزاکیں، جو حق اللہ سے متعلق ہیں، محض واقعی شہادتوں اور قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتیں۔

شانشیا: آیت ذین، (جس میں صراحتاً حکم آیا ہے کہ دو مردوں کو یا اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بناؤ)، کے سلسلے میں ان ناقدین نے جو تاویلات اختیار کی ہیں ان کی کم زور بالکل ہی واضح ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب کی رائے بہت مشہور ہوئی ہے کہ آیت ذین میں گواہ ہونے کا ذکر نہیں، بلکہ گواہ بنانے ﴿فَأَسْتَشْهِدُوا﴾ کا ذکر ہے۔ ان دونوں امور میں فرق کے متعلق ان کی رائے یہ ہے کہ دستاویز لکھنے کے لیے دستاویز لکھنے والے کسی کو گواہ بناتے ہیں، جب کہ کسی جرم یا سانحے کی گواہی وہی لوگ دیتے ہیں جو موقع پر موجود ہوتے ہیں۔^(۴۹) وفاقی شرعی عدالت نے بھی رشیدہ پٹیل کیس میں اسی طرح کی رائے کا اظہار کیا ہے۔^(۵۰) لیکن یہ بات کمی وجود سے انتہائی کمزور ہے۔ ایک تو جس آیت میں زنا کے ثبوت کے لیے چار گواہوں کی شہادت کا ذکر ہے وہاں بھی لفظ ﴿فَأَسْتَشْهِدُوا﴾ ہی آیا ہے۔^(۵۱) کیا وہاں بھی اسی طبقے کا حکم ہے نہ کہ ”اتفاقاً گواہ بن جانے“ کا؟ پھر آیت کا تعلق ”گواہ بنانے“ سے ہی کہی، یہ سوال پھر بھی رہتا ہے کہ مردوں ہی کو، یا دو مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو، گواہ بنانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ نیز آیت میں دو عورتوں کی گواہی کا جو ذکر آیا ہے وہاں یہ مراد کیسے لیجا سکتا ہے کہ ایک عورت ہی گواہی دے گی، جب کہ دوسرا صرف اس کی مدد کرے گی؟ کیا عدالت میں گواہی اسی طور دی جاتی ہے؟ ان دو میں سے ”گواہ“ کون ہوگی اور ”مدد کرنے والی“ کون؟ اگر کبھی ان دو میں ایک موجود ہو اور دوسرا نہ ہو تو عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ اگر ”مدد کرنے والی“ کی عدم موجودگی میں بھی عدالت وہی فیصلہ سنائے جو اس کی موجودگی میں سناتی تو اس کی موجودگی کا حکم کیوں دیا گیا؟^(۵۲) اس بنا پر ان لوگوں کو مزید^(۵۳) یہ تاویل کرنی پڑی کہ آیت دین کا یہ حکم عدالت اور قانون سے متعلق نہیں بلکہ ”ایک معاشرتی ہدایت“ ہے۔

۶۹- غامدی، بربان، ص ۲۸

۷۰- حقیقت یہ ہے کہ بعض امور و معاملات اختیاری ہوتے ہیں اور ان کے لیے گواہوں کا اہتمام کیا جاسکتا ہے، لیکن بعض و اتعابات خادوش کی طرح پیش آتے ہیں اور ان کے لیے پہلے سے گواہوں کی موجودگی یقینی نہیں ہو سکتی۔^(PLD 1989 FSC 95 at 119) کو نسل کی رپورٹ میں بھی اس بات کو دہرا یا گیا ہے بلکہ آیت دین کی جو تفسیر تمام ائمہ فقہ و قانون و تفسیر سے مردی ہے اسے بڑی آسانی سے patriachal interpretation قرار دیا گیا ہے۔ (ص ۷۸ و ص ۱۶۲)

۷۱- النساء، آیت ۱۵

۷۲- اس مسئلے کی پچیدگیوں پر تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے: سرکار بیان نذیر، 143, 1986, PLD 1986

۷۳- غامدی، مرجع سابق، ص ۲۹

مگر اسے معاشرتی بہادیت مان لینے سے بھی مسئلے کی نوعیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ تنازع کی صورت میں بالآخر عدالت ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور وہاں دستاویز کے مندرجات کے متعلق گواہوں کو گواہی دینا پڑتی ہے۔ تاہم اگر ان کی یہ تاویل بھی قبول کی جائے تو جب بھی یہ سوال برقرار رہتا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ حکم کیوں ہے مردوں کے لیے کیوں نہیں؟ جس Gender Discrimination کے الزام سے یہ ناقدین قرآن و سنت کو بچانا چاہتے ہیں وہ پھر بھی قائم رہتا ہے۔

در اصل ناقدین کی اصل الجھن یہ ہے کہ وہ اسلامی قانون کی سزاوں کو حدود تک محدود بھجتے ہیں، اسی

لیے وہ کہتے ہیں:

اس قانون پر یہ اعتراض بجا ہے کہ گھروں میں خواتین تنہا ہوں یا گرلز ہاؤسلز میں کوئی درندہ صفت شخص گھس کر خاتون کی آبروریزی کر دے تو اسے ثابت کرنے کے لیے چار بالغ مسلمان مرد چشم دید گواہ چائیں جو ترکیہ الشہود کے معیار پر پورے اتریں، اور یہ ناممکن ہے۔^(۲۴)

وفاقی شرعی عدالت نے بھی رشیدہ پیلیں کیس میں اس سوال پر بحث کی ہے:

ان اداروں میں جہاں صرف خواتین کام کرتی یا رہائش پذیر ہوتی ہیں (مثلاً گرلز ہاؤسلز، زنگ ہومز، ویمن سینٹرز، وغیرہ) یا ان اوقات میں جب کہ ان کے اپنے مرد گھروں میں موجود نہ ہوں، اگر اس قسم کے جرائم کا ارتکاب ہو تو اس صورت میں اثبات جرم کا کیا طریقہ ہو گا؟ ۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ امور و معاملات اختیاری ہوتے ہیں اور ان کے لیے گواہوں کا اہتمام کیا جاسکتا ہے، لیکن بعض واقعات حادثوں کی طرح پیش آتے ہیں اور ان کے لیے پہلے سے گواہوں کی موجودگی یقینی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایسے حادث کے موقع پر جو بھی چار گواہوں ان کی چشم دید گواہی الزام کی حد تک وقوع کی ایسی تصدیق کر سکتی ہے جو فس فعل کے امر واقعہ کو شخص الزام تراشی کی حد سے نکال لیتا ہے، اور یہ بات ایک طرف الزام لگادینے والے سے حد قذف رد کر دینے کے لیے کافی ہے اور دوسری طرف تجزیری سزادینے کے

^(۲۵)

لیے۔

ہماری رائے میں فاضل عدالت کی یہ تحقیق صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری تحقیق اس مفروضے پر قائم ہے کہ اسلامی سزاویں حدود تک محدود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا حد کے سوا اور کوئی سزا نہیں دی جاسکتی؟ کیا سیاست کے نظریے کے تحت ریاست کو ایسے درندہ صفت شخص سے منع کے ساتھ اور اسے قرار واقعی سزادینے کے لیے کچھ اختیارات نہیں دیے گئے؟

۷۸ - ہاشمی، مرجع سابق، ص ۸۷

رکھا گیا تھا۔ جہاں تک Fornication کا تعلق ہے تو وہ اس قانون کے تحت جرم نہیں تھا۔ یہ قانون پاکستان میں حدود قوانین کے نفاذ تک رانج رہا۔^(۳۵)

حد زنا آرڈی نینس نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۳۷۵ کو، جس کے تحت Rape کے جرم پر سزا دی جاتی تھی، ختم کر کے جرم زنا کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا: زنا بالرضاء اور زنا بالجبر، پھر ان میں سے ہر قسم کو دو قسموں، مستوجب حد اور مستوجب تعزیر، میں تقسیم کیا۔ ”زنا بالجبر مستوجب حد“ کے لیے وہی معیار ثبوت مقرر کیا گیا جو ”زنا مستوجب حد“ کے لیے ہے، یعنی مجرم کا اقرار یا چار مسلمان مردوں کی عینی شہادت۔ اس شق پر بہت زیاد اعتراضات ہوئے اور بالآخر ”قانون تحفظ نوال ۲۰۰۶ء“ نے حد زنا آرڈی نینس سے زنا بالجبر کے متعلق تمام دفعات ختم کر کے تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۳۷۵ کا احیا کیا، البتہ اپنے دوسرے جنم میں دفعہ ۳۷۵ پہلے جنم سے کچھ مختلف ہے؛ چنانچہ ایک طرف تو Rape کے جرم کو مردوں کے ساتھ خاص کیا گیا۔ اصل دفعہ ۳۷۵ میں، جسے انگریزوں نے وضع کیا تھا، یہ جرم کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے شخص کے خلاف کر سکتا تھا۔ اب نئی دفعہ ۳۷۵ کے تحت یہ جرم کوئی مرد کسی عورت ہی کے خلاف کر سکتا ہے۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ اصل دفعہ ۳۷۵ میں شوہر کو استثنایاً گیا تھا، جب کہ نئی دفعہ ۳۷۵ میں یہ استثنای ختم کر دیا گیا ہے۔ بہ الفاظ دیگر، تعزیرات پاکستان میں اب Rape نامی جرم بھی وجود میں آگیا ہے۔ بیوی کے ساتھ زبردستی مباشرت کا ارتکاب چاہے ناپسندیدہ عمل ہو، اور چاہے بعض صورتوں میں اسے قابل تعزیر بھی قرار دیا جاسکے، مگر کیا اسے Rape قرار دیا جاسکتا ہے؟

دوسری طرف قانون تحفظ نوال ۲۰۰۶ء نے حد زنا آرڈی نینس سے تعزیرات کے متعلق تمام دفعات ختم کر کے ان میں سے اکثر کو تعزیرات پاکستان میں جگہ دے دی ہے۔ اس بات پر اصولاً کوئی بڑا اعتراض شاید نہ کیا جاسکے، لیکن اس کو بشش میں ایک نہایت دور رس نتائج کی حامل ترمیم بھی کی گئی ہے؛ چنانچہ تعزیرات پاکستان میں دفعہ ۳۹۶۔ ب کا اضافہ کر کے Fornication کا جرم تخلیق کیا گیا ہے۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ اس دفعہ کے تحت Fornication کے جرم کی تعریف وہی ہے جو حد زنا آرڈی نینس کی دفعہ ۳۷۵ کے تحت زنا کی ہے۔ بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان دونوں قوانین کے تحت جرم کے اثبات کے طریق کا اور سزا میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ پس زنا کے جرم کے اثبات کے لیے چار مسلمان یعنی گواہوں کی ضرورت ہے، جب کہ Fornication کے

۳۵۔ تعزیرات پاکستان کی پرانی دفعہ ۳۷۵ کے تحت Rape کی تعریف دی گئی جب کہ دفعہ ۳۷۶ کے تحت اس جرم پر عمر قید تک سزا دی جاسکتی تھی۔ دفعہ ۳۹۶ کے تحت Adultery یا ”زنا بزن غیر“ کی تعریف دی گئی تھی۔

ثانیاً: جو فقہا یہاں غیر مسلم مراد لیتے ہیں وہ اسے ایک استثنائی صورت قرار دیتے ہیں،^(۷۹) اور آیت کے صریح الفاظ بھی اس کی تائید کرتے ہیں ہے (أَوْ أَخْرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنَّ الْأَنْفُسَ ضَرَبَنَّمِ فِي الْأَرْضِ فَاصْبَرُنَّكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتٍ)۔

مثالاً: جو فقہا اس معاملے میں غیر مسلموں کی گواہی قبول کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی گواہی پر مسلمان کو حد کی سزا نہیں دی جاسکتی۔^(۸۰) اس کی وجہ وہی ہے جو اپر بیان ہوئی کہ حدود سزاوں کا معاملہ بالکل ہی الگ نوعیت کا معاملہ ہے، دیگر ابواب فقہ سے قیاساً احکام اخذ کر کے انہیں حدود کے معاملات پر منطبق نہیں کیا جاسکتا۔

خامساً: جرم مستوجب حد اور جرم مستوجب تعزیر

حدود قوانین پر ایک عام اعتراض یہ بھی تھا کہ ان میں جرم کے اثبات کے لیے دوہرے معیار قائم کیے گئے تھے۔ اگر ایک معیار پر جرم ثابت ہو جاتا تو حد کی سزا عائد کی جاتی اور اگر اس سے کم معیار پر جرم ثابت ہو جاتا تو تعزیر کی سزا دی جاتی۔ گویا ہر جرم یا مستوجب حد تھا اور یا مستوجب تعزیر۔ اس سلسلے میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ اسلامی قانون کی صحیح تعبیر نہیں۔ فقہا کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف، حد کا جرم ثابت ہو جائے مگر شہیہ کی وجہ سے یا کسی شرط کے فقدان کی وجہ سے اسے حد کی سزا دی جاسکتی ہو تو اسے تعزیری سزا دی جاسکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے پاگل شخص کو اُنے زانی!، کہہ کر پکارا تو مقدمہ میں شرط احصان کے مفقود ہونے کی وجہ سے قاذف کو حد کی سزا (ای کوڑے) تو نہیں دی جائے گی مگر تعزیری سزا دی جاسکتی ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ مقدار اتنا لیس کوڑے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس صورت میں جرم کے اثبات کے لیے

۷۹۔ طبری، مصدر سابق، ص ۸۶

۸۰۔ مثلاً قاضی شریعہ ان لوگوں میں تھے جو اس آیت میں من غیرکم سے مراد غیر مسلم لیتے تھے مگر اس کے باوجود ان کا طرز عمل یہ نقل کیا گیا ہے: إنه كان لا يحيى شهادة اليهود و النصارى على مسلم إلا في الوصية، و لا يحيى شهادتها على الوصية إلا إذا كانوا في سفر. (طبری، نفس مصدر، ص ۸۲)

”وہ وصیت کے سوا کسی معاملے میں مسلمان کے خلاف یہود اور عیسیائیوں کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے، اور وصیت کے معاملے میں بھی ان کی گواہی تھی قبول کرتے جب انہیں یہ معاملہ سفر میں پیش آتا۔“

کوئی الگ معیار مقرر کیا گیا نہیں، بلکہ جرم تو اسی معیار ثبوت پر ثابت کیا گیا مگر کسی اور سبب سے حد کی سزا نہیں دی جاسکی تو تعزیری سزا دی گئی۔

اس سلسلے میں سب سے زیادہ سنگین مسئلہ 'زنامستوجب تعزیر' کا تھا جس کے لیے 'زنامستوجب حد' سے مختلف معیار ثبوت مقرر کیا گیا تھا۔ قرآن کریم نے تو صریح کی ہے کہ زنا کا الزام لگانے والا شخص اگر اپنے دعوے کے حق میں چار عینی گواہ نہ لاسکے تو اسے قذف کی سزا دی جائے گی۔

(۸۱)

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءٍ فَاجْلِدُوهُنَّ ثَمَنِينَ جَلْدًا ﴾

(اور جو لوگ پاک باز عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں پھر چار گواہ نہیں لائے تو ان کو اسی کوڑے مارو۔)

(۸۲)

﴿ لَوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءَ فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ أَكْبَرُ بُطُونَ ﴾

(وہ کیوں اس دعوے پر چار گواہ نہیں لائے۔ پس جب وہ چار گواہ نہ لاسکے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹی ہیں۔) پس اگر الزام لگانے والا اپنے دعوے کے ثبوت میں قرآن اور واقعی شہادتوں کا انبار بھی لگائے تو اس سے جرم زنا ثابت نہیں ہو گا، بلکہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہو گا اور اس پر حد قذف عائد ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا میرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تین گواہ پیش ہوئے اور چوتھے کی گواہی زنا کے اثبات کے لیے صریح نہیں تھی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گواہوں کو قذف کی سزا دی۔

اس کے بر عکس حد زنا آرڈی نہیں میں قرار دیا گیا تھا کہ بعض حالات میں چار گواہ پیش نہ کرنے کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے کہ مدعا کو قذف کی سزا نہ دی جائے۔ ایسی صورتوں میں ریکارڈ پر موجود شہادت اور ثبوت کی

بنیاد پر عدالت مدعاعلیہ کو مناسب تعزیری سزا نہیں تھی۔^(۸۳) وفاقی شرعی عدالت نے بھی رشیدہ پیل کیس میں اس اصول کو درست قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی بنیاد یہ تھی کہ دیگر قرآن سے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ گواہ کذب بیانی کر رہے تھے اور یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ ان پر جس خاتون کے ساتھ زنا کا الزام لگایا گیا

۸۱ - النور: ۳

۸۲ - النور: ۱۳

۸۳ - حد زنا آرڈی نہیں، دفعہ ۱۰، ذیلی دفعہ

تھا، وہ دراصل ان کی بیوی تھی۔^(۸۴) ہماری رائے میں فاضل عدالت کی یہ تحقیق بالکل غلط ہے۔ میں گواہوں نے تو صراحتاً ناکالازام لگایا تھا، مگر چوتھے نے کہا اس نے ” فعل زنا ” ہوتے نہیں دیکھا اگرچہ اس نے چڑھتی سانسوں اور ننگے بیروں کا ذکر کیا۔ نیز اسے یقین نہیں تھا کہ وہ خاتون کوئی جنپی تھیں یا سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہی تھیں۔^(۸۵)

84-PLD 1989 FSC 95 at 130

۸۵- اور حاشیہ ۳۲ میں ہم ان روایات کے حوالے دے پکے ہیں۔ سرخسی نے اس فیصلے پر یوں تبصرہ کیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ السِّرْتَ عَلَى عِبَادَةِ، وَإِلَى ذَلِكِ نَدْبٍ، وَذَمٌ مِّنْ أَحَبِّ أَنْ تُشَيَّعَ الْفَاحِشَةُ، فَلَتَحْقِيقِ
مَعْنَى السِّرْتِ شَرْطٌ زِيَادَةُ الْعَدْدِ فِي الشَّهُودِ عَلَى هَذِهِ الْفَاحِشَةِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ
لَهُلَالُ بْنُ أَمِيَّةَ : أَتَ بِأَرْبَعَةِ يَشَهِّدُونَ عَلَى صَدْقَ مَقَالَتِكَ، وَإِلَّا فَحَدِّ في ظَهَرِكَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ عُمَرُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ شَهَدَ عَنْهُ أَبُو بَكْرَةَ وَشَبَيلَ بْنَ مَعْبُودَ وَنَافعَ بْنَ الْأَزْرَقَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنَ شَعْبَةِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ بِالزَّنَنَ، فَقَالَ لِرَيَادٍ وَهُوَ الرَّابِعُ: بِمِ تَشَهِّدُ؟ فَقَالَ: أَنَا رَأَيْتُ أَقْدَامًا بَادِيَّةً وَأَنْفَاسًا عَالِيَّةً وَأَمْرًا
مُنْكَرًا، وَفِي رَوَايَةٍ: رَأَيْتُهَا تَحْتَ لَحَافَ وَاحِدٍ يَنْخَفَضُ إِلَيْهِ وَيَرْتَعِنُ، وَيَضْطَرَّبَانِ اضْطَرَابَ الْخِيْرَانِ، وَفِي
رَوَايَةٍ: رَأَيْتُ رَجُلًا أَقْعَنِي وَامْرَأَةَ صَرْعَى، وَرَجُلَيْنِ مُخْضُوبَيْنِ، وَإِنْسَانًا يَذْهَبُ وَيَجْبِيُّ، وَلَمْ أَرْ سُوَى
ذَلِكَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَفْضُحْ وَاحِدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِهِ ﷺ۔ فَفِي هَذَا بَيَانِ اشْتَرَاطِ الْأَرْبَعَةِ
لِإِبْقَاءِ سِرْتِ الْعَفَةِ۔ (سرخسی، المبسوط، کتاب الحدود، ج ۹، ص ۳۳)

(اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پرده پوشی چاہتا ہے۔ اس نے اس عمل کو پسندیدہ تھبھرایا ہے اور بے جیائی کی اشاعت کو ناپسند کیا ہے۔ پس پرده پوشی تحقیق کرنے کے لیے اس اس بے جیائی کے ثبوت کے لیے گواہوں کی زیادہ تعداد کی شرط رکھی۔ اسی بات کی طرف رسول اللہ ﷺ نے اشارہ کیا جب آپ نے بلال بن امیرہ رضی اللہ عنہ سے کہا: چار گواہ لا جو تمہارے دعے کی جیائی کی گواہی دیں یا تمہاری پیٹھ پر کوڑے لگیں گے۔ اسی حقیقت کی طرف عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا جب ان کے سامنے ابو بکرہ، شبیل بن معبد اور نافع بن الازرق نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جرم زنا کے مقدمے میں گواہی دی تو انہوں نے زیاد سے، جو چوتھا گواہ تھا، پوچھا: تم کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا: میں نے ننگے بیوی، چڑھتی سانسیں اور بر اکام ہوتے دیکھا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں: میں ان دونوں کو ایک لحاف میں بلند ہوتے اور نیچے ہوتے دیکھا اور بید کی طرح ملٹے دیکھا۔ ایک روایت میں ہے: میں نے دیکھا کہ مرد اپر ہے اور عورت نیچے ہے اور دو بیوی مہنگی میں رنگے ہوئے ہیں اور ایک انسان آگے بیچھے ہو رہا ہے، اور اس کے سوامیں نے پکھ نہیں دیکھا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کا شکر ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی کو رسوائی سے بچایا۔ پس اس واقعہ میں اس بات کی واضحت ہے کہ چار کی شرط کا متصد عفت کی پرده پوشی ہے۔)

پس گواہوں کو قذف کی سزادی نے کی بنیاد تھی بات تھی کہ جب چار کا نصاب پورا نہ ہو سکا تو پہلے تین جھوٹے قرار دے دیے گئے۔ شمس الائمه امام ابو بکر محمد بن ابی سہل سرخی کہتے ہیں:

(۸۶) الشهادة على الزنا قذف في الحقيقة، ولكن بتكميل العدد يتغير حكمها، فيصير حجة المخد.

زنا کی شہادت حقیقت میں قذف ہے لیکن عد کے پورا ہونے کے سبب سے اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ حد کے لیے جست بن جاتی ہے۔

در اصل فاضل عدالت بھی حدود قوانین کا مسودہ بنانے والوں کی طرح اس الجھن کا شکار ہو گئی کہ حد کے اثبات کے لیے درکار نصاب شہادت پورا ہونا عام حالت میں ممکن نہیں ہوتا، جب کہ جرم کے اثبات کے لیے عام قانون شہادت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ یقینی ہوتا ہے کہ مدعاعلیہ نے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ تو کیا اس صورت میں جرم کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ چنانچہ انہوں نے جرم کے ثبوت کے لیے دو ہر امعiar قائم کر دیا کہ اگر ایک معیار پر ثابت ہو تو حد کی سزا دی جائے گی اور اگر دوسرے معیار پر ثابت ہو تو تعزیر کی سزا دی جائے گی۔

اس کے برعکس صحیح طریقہ یہ ہے کہ جرم زنا کو صرف مستوجب حد قرار دیا جائے اور اس کے لیے ایک ہی معیار ثبوت ہو۔ باقی رہیں بے حیائی کی دیگر اقسام، تو ان کو الگ جرائم قرار دے کر ان کے لیے الگ معیار ثبوت مقرر کر دیا جائے۔ قانون تحفظ نسوان ۲۰۰۶ء کی منظوری سے پہلے اس کے مسودے کو جس علامہ کمیٹی کے پاس بھیجا گیا اس نے بھی یہی تجویز دی تھی، تاہم انجام کا رہوا یہ کہ اس قانون کے تحت زناہی کو Fornication کا نام دے کر اسے تحریرات پاکستان میں جگہ دے دی گئی اور اس کے لیے نسبتاً آسان معیار ثبوت مقرر کیا گیا، بے الفاظ دیگر، پرانی غلطی کو ہی دہرا یا گیا۔

سادساً: غیر مسلموں پر حدود سزاوں کا نفاذ

حدود قوانین کے ناقدین نے اس امر پر بھی بہت سخت تنقید کی ہے کہ ان قوانین کو غیر مسلموں پر بھی لاگو کیا گیا ہے، اس سلسلے میں بعض لوگوں نے غیر مسلموں پر حدود کے نفاذ کے سلسلے میں فقہاء کے اختلافات کا بھی حوالہ دیا ہے۔ یہاں اس موضوع پر تفصیلی تبصرے کی گنجائش نہیں ہے، تاہم اس اصولی حقیقت کی طرف ہم پھر توجہ دلائیں گے کہ فقہاء کے اقوال میں اپنی پند کے اقوال اخذ کرنے اور انہیں ملکی قانون کا حصہ بنانے کا طریقہ انتہائی غلط اور نقصان دہ ہے۔ جیسا کہ ابتداء میں ہم نے واضح کیا ہے، اس طریقے کا سب سے بڑا نقصان قانون کے

اندر تضاد اور تقادم (Analytical Inconsistency) کی صورت میں سامنے آتا ہے جس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قانونی نظام میں ارتقا کا عمل رک جاتا ہے، نیز قانون کے عملی نفاذ کی راہ بہت کھٹکن ہو جاتی ہے۔

غیر مسلموں پر حدود کے نفاذ کے سلسلے میں فقہا کے اختلافات کی ایک بنیاد ان کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا شریعتِ اسلامیہ کے نفاذ کے سلسلے میں دارالاسلام کی علاقائی حدود کا کچھ عمل دخل ہے یا نہیں؟ یا یہ الفاظ دیگر کیا اسلامی قانون Territorial Jurisdiction کا اصول مانتا ہے یا نہیں؟ اس اصول پر اختلاف کے سب سے کئی فروعی مسائل میں اختلاف واقع ہوا ہے، مثلاً غیر مسلم ملک میں سودی یعنی دین کا جواز عدم جواز، غیر مسلم ملک میں مسلمان ملک کے باشندے سے ہونے والے ظلم کے سلسلے میں مسلمان ملک کی عدالتون کا اختیار ساعت وغیرہ۔ ان امور میں امام ابو حنیفہ رض کی رائے وہی ہے جو عملاً اس وقت میں الاقوامی قانون کی روشنے زائر ہے۔ انہوں نے Territorial Jurisdiction کے اصول کو مانتے ہوئے دارالاسلام اور دارالحرب کا نظریہ پیش کیا ہے۔ اس نظریے کی روشنے دارالاسلام میں مستقل رہائش پذیر باشندے، چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم، دارالاسلام کے ملکی قانون کے پابند ہیں، جب کہ دارالاسلام سے باہر رہنے والے لوگ اس قانون کے پابند اس معنی میں ہیں کہ انہیں قانون کی خلاف ورزی پر دارالاسلام کی عدالت سزا نہیں دے سکتی۔ اسی طرح دارالاسلام کی عدالت پر ان کے حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں کوئی ذمے داری عدم نہیں ہوتی۔^(۸۷) سوال یہ ہے کہ جب اس اصول کو پاکستان کے قانونی نظام نے مجموعہ تعریفات پاکستان سمیت دیگر تمام قوانین میں مانا ہے تو صرف حدود سزاوں کے سلسلے میں کیوں اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ یا تو فقرہ شافعی کی روشنے اس اصول کو سرے سے نظر انداز کر کے پورے قانونی نظام کی تشکیل نو تکمیل، یا اگر اس اصول کو دیگر مقامات پر مانا ہے تو حدود میں بھی مانیے۔ خواہ مخواہ معدورت خواہ نہ طرزِ عمل اپنا کر اسلامی قانون کا حلیہ کیوں بگاڑا جائے؟

